


حضرت عثمان غنی  
رضی اللہ عنہ  
سوانح  
قصے

مؤلف  
مولانا خزیم یوسف صاحب  
فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور

بیت العلوم

۲۰- ناچھوڑ روڈ، پرائمری بازار کئی لاہور، فون: ۳۵۱۲۸۳



حضرت عثمان غنیؓ کے تواقفے



حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ  
کے  
سواقصے

مؤلف

مولانا خرم یوسف صاحب

(فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور)

بیش العلوم

۲۰- نابعہ روڈ، پرانی انارکلی لاہور۔ فون: ۳۳۲۳۳۳

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

کتاب حضرت عثمان غنیؓ کے ۱۰۰ قصے  
 مرتب مولانا محمد خرم یوسف صاحب  
 باہتمام محمد ناظم اشرف  
 ناشر بیت العلوم - ۲۰ تھ روڈ، چوک پرانی انارکلی، لاہور  
 فون: ۷۳۵۲۲۸۳

﴿ملنے کے پتے﴾

بیت العلوم = ۲۰ تھ روڈ، پرانی انارکلی، لاہور  
 ادارہ اسلامیات = ۱۱۹۰ انارکلی، لاہور  
 ادارہ اسلامیات = سوہن روڈ چوک اردو بازار، کراچی  
 دارالاشاعت = اردو بازار کراچی نمبر ۱  
 بیت القرآن = اردو بازار کراچی نمبر ۱  
 بیت الکتب = گلشن اقبال، کراچی  
 ادارۃ المعارف = ڈاک خانہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳  
 مکتبہ دارالعلوم = جامعہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳  
 مکتبہ سید احمد شہید = انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور  
 مکتبہ رحمانیہ = غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

## عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس بات سے تقریباً ہر شخص واقف ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسا اوقات لمبے چوڑے مطالعے اور مسلسل وعظ و نصیحت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکابرین امت اور صلحائے دین کے بعض مختصر واقعات انسان کی کایا پلٹنے کے لیے نسخہ اکسیر ثابت ہوئے۔ دراصل دل کے حالات و کیفیات وقت کے بدلنے اور مرور زمانہ کے بدولت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی یہ قلب تسلسل سے کہی گئی بات کو بھی تسلیم کرے سے انکار کر دیتا ہے، اور کبھی یہ اس قدر نرم ہو جاتا ہے کہ مختصر سی خاموش نصیحت کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی یہی کیفیت ہے جس میں اخلاص و اللہیت، عاجزی و انکساری، زہد و عبادت، تقویٰ و بزرگی، موت اور فکرِ آخرت وغیرہ پر مشتمل اسلاف کے واقعات دل کی دنیا تبدیل کرنے میں بڑا موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جھرمٹ میں انبیائے کرام علیہم السلام اور امم سابقہ کے نیک لوگوں کے حالات و واقعات نقل فرماتے اور ان کی زہد و عبادت کا تذکرہ فرماتے، بزرگان دین اور علماء کرام نے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے واقعات اور قصص پر مشتمل بہت سی کتابیں ترتیب دی ہیں جس میں نہ جانے کتنے موعظت و حکمت اور فکرِ آخرت کے درس پوشیدہ ہیں۔

موجودہ کتاب اسی نقش قدم کی پیروی ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ۱۰۰ قصص کو عنوانات کے ساتھ باحوالہ جمع کیا گیا ہے۔

مولانا محمد خرم صاحب جنہوں نے اسے پہلے بھی قصص و واقعات پر مبنی کتاب ’ازواجِ مطہرات‘ کے دلچسپ واقعات‘ بڑے اچھے انداز میں ترتیب دی تھی، اس کتاب

کو بھی اسی ذوق سے ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مزید مقبول خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس سلسلہ میں الحمد للہ بیت العلوم کی جانب سے سیرت و حالات اور قصص واقعات پر مشتمل مندرجہ ذیل کتب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

- (۱) قصص معارف القرآن
- (۲) قصص القرآن
- (۳) ازواج مطہرات کے دلچسپ واقعات
- (۴) مظلوم صحابہ کی داستاںیں
- (۵) قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے
- (۶) حضرت ابوبکرؓ کے ۱۰۰ قصے
- (۷) حضرت علیؓ کے ۱۰۰ قصے
- (۸) حضرت عمرؓ کے ۱۰۰ قصے

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بیت العلوم کو دن و گنی اور رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین

محتاج دعا

محمد ناظم اشرف

مدیر بیت العلوم

و خدام جامعہ اشرفیہ لاہور

یکم ذی الحجہ ۱۴۲۵ھ

بمطابق ۱۲ جنوری ۲۰۰۵ء

## عرض مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! خلفاء راشدین کی زندگی کا ہر گوشہ، ان کی فکر اور عمل کے انفرادی اور اجتماعی پہلو، ان کا اندازِ جہاں بینی، ان کا سلیقہ جہان بینی، ان کی دینی بصیرت اور ان کا فقہی اجتہاد وغیرہ ہمارے لیے مشعلِ راہ اور دنیوی و اخروی فتوحات و برکات کے حصول کا ذریعہ و مبداء ہے۔ یہ ہی ہمارے اصول و فروع ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوانہ کا پروانہ ملا اور کہیں مہتدون، مفلحون، راشدون، فائزون وغیرہ القابات سے نوازا گیا۔ ان کی حیاۃ طیبہ کو پڑھنا، سننا، عملاً اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر لانے کی فکر و سعی کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ جبکہ کفر و الحاد کی اس گہری ہوئی زندگی میں ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی آج ہمارے لیے اجنبی، نا آشنا اور اساطیر الاولین بن چکی ہے..... فالی اللہ المشتکی!

ہماری یہ کاوش ان حضرات کی زندگی کو سامنے لانے کے لیے نئی نہیں ہے۔ بلکہ علمائے سابقین کی مایہ نازتیب نے اس خلا کو پُر کیا ہے اور ان کی زندگی کو روشن اور چمکدار دن کی طرح اُمت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ (جزاہم اللہ احسن الجزاء) لیکن آج کے اس مشینی دور میں جبکہ مصروفیتوں کے انبار ہیں۔ اور ہر گس و ناگس قلتِ وقت کے نا سمجھ میں آنے والے عذاب میں مبتلا ہے تو ضرورت تھی کہ ان حضرات کی حیات مبارکہ کو سہل و دلکش انداز میں اور واقعات کے تناظر میں پیش کیا جائے۔ تاکہ ہر کوئی ان پھولوں کو چمٹا ہو اپنی عارضی اور باقی رہنے والی زندگی کو تابناک و خوشنما کر سکے۔

اس سلسلے میں ہمارے محترم استاد مولانا محمد ناظم اشرف صاحب نبیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمۃ نے حضرات خلفائے راشدین کی زندگی کو مندرجہ بالا انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور مجھے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی



اللہ عنہ کی زندگی و واقعات کو جمع و ترتیب دینے کا حکم فرمایا ع  
 اِس سَعَادَتِ بَزْوَرِ بَزْوَنِیْسِتِ

اور اس سلسلے میں مکمل راہنمائی اور مواد کی نشاندہی فرمائی۔ اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر اپنی حوصلہ افزا گفتگو سے ڈھارس بندھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

راقم نے اس کتاب میں اولاً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے بعض پہلو اُجاگر کئے ہیں۔ ثانیاً اُن کی زندگی کو واقعاتی انداز میں ڈھالتے ہوئے عنوان بندی کی ہے۔ جس سے قاری کو ایک ہی نظر میں واقعہ میں ذکر شدہ مواد کا موضوع معلوم ہو جائے گا۔ اور ہر واقعہ کا حوالہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہر قسم کے ریا و دکھلاوے سے حفاظت فرمائے اور ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر ترجیحی بنیادوں پر عمل کرنے کی اور اسے اپنے لیے باعثِ عزت و نجات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے اساتذہ، والدین، عزیز و اقارب، عمل کی نیت سے پڑھنے والے، لکھانے والے اور لکھنے والے کے لیے مغفرت، اجرِ عظیم اور آخرت میں رفاقتِ عثمان رضی اللہ عنہ کا سبب و ذریعہ بنائے۔ (آمین)

خرم یوسف

۱۶ ذی قعدہ ۱۴۲۵ھ

۲۹ دسمبر ۲۰۰۴ء

## ﴿ فہرست ﴾

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ	۱۵
۲	نام و نسب اور خاندان	۱۶
۳	ولادت	۱۶
۴	پیشہ	۱۷
۵	سلامتِ فطرت	۱۷
۶	قبولِ اسلام	۱۸
۷	حلیہ مبارک	۱۸
۸	لباس	۱۸
۹	غذا	۱۹
۱۰	اندازِ گفتگو	۱۹
۱۱	دینی خودداری اور حمیت	۱۹
۱۲	عبادت و شہیت	۱۹
۱۳	اخلاقِ حمیدہ	۲۰
۱۴	منکسر المزاج	۲۰
۱۵	خدمت سے گریز	۲۰
۱۶	پہرہ کا عدم اہتمام	۲۱
۱۷	تقویٰ و طہارت	۲۱
۱۸	ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام	۲۱
۱۹	غلاموں کی آزادی	۲۲

۲۲	جمع قرآن	۲۰
۲۲	انشاء و تحریر	۲۱
۲۲	اقوال عثمان رضی اللہ عنہ	۲۲
۲۳	امور خلافت و انتظام ملکی	۲۳
۲۳	اولیات عثمان رضی اللہ عنہ	۲۴
۲۵	کتابت وحی	۲۵
۲۵	ازواج و اولاد	۲۶
۲۷	حالات سفر میں بعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا	۲۷
۲۷	عیادت کی برکت سے نعمت اسلام سے سرفراز ہونا	۲۸
۲۸	اظہار اسلام پر تکالیف	۲۹
۲۸	تعاون علی البر کی مثال	۳۰
۲۹	امارت سے استغناء	۳۱
۲۹	دوسروں سے نصیحت چاہنا	۳۲
۳۰	سخاوت و حسن جمال کا پیکر	۳۳
۳۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرنا	۳۴
۳۱	قبر کا خوف	۳۵
۳۲	تجدید کعبہ کے لیے سختی کرنا	۳۶
۳۳	رعایا کے ساتھ حسن سلوک	۳۷
۳۳	انگوٹھی کی گمشدگی	۳۸
۳۴	احساس ذمہ داری	۳۹
۳۴	اکرام اور پتے کی بات	۴۰
۳۵	میقات کا خیال رکھنے کی تاکید	۴۱

۳۵	برائی کس قلع قمع کرنا	۴۲
۳۶	اجتماعی ضرورت کی خاطر کتم حدیث کا حکم	۴۳
۳۶	استنصواب رائے	۴۴
۳۷	فریضہ تبلیغ دین	۴۵
۳۷	تکلیف فقہت	۴۶
۳۸	اپنی ذات کو مشورہ کے تابع رکھنا	۴۷
۳۸	کلمہ خیر کا اور اتباع کرنا	۴۸
۳۹	جائز سفارش کرنا	۴۹
۳۹	اعمالِ سحر پر گرفت	۵۰
۳۹	اعزازِ سفارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۵۱
۴۰	ذہنی ہم آہنگی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۵۲
۴۱	سب سے پہلے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت	۵۳
۴۲	بامرِ مجبوری حدیث نہ سنانا	۵۴
۴۲	اہل بیت کی تعظیم اور ان سے محبت	۵۵
۴۳	شیطانی وساوس سے نجات کی فکر	۵۶
۴۳	حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کچھ جھجائی نہ دینا	۵۷
۴۵	قبولِ ضیافت کی اچھوتی وجہ	۵۸
۴۵	من جانب اللہ لقب ذی النورین کا ملنا	۵۹
۴۶	برائی نہ دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا	۶۰
۴۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو سیکھانا	۶۱
۴۷	دنیا میں بدلہ چکانے کی فکر	۶۲
۴۷	تحدیثِ نعمت اور بڑوں کی تعریف کرنا	۶۳

۴۸	اللہ کے راستے کے لیے لشکر کو ساز و سامان دینا	۶۴
۴۹	مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادگی کے لیے زمین خریدنا	۶۵
۴۹	قرضہ معاف کرنا	۶۶
۴۹	بیت رسالت کی خدمت	۶۷
۵۱	ایک ہزار اونٹ بمعہ سامان صدقہ کرنا	۶۸
۵۲	جنت کے چشمے کا وعدہ	۶۹
۵۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالنورین کے لیے دعائیں	۷۰
۵۳	سادگی اپنوں کی دیکھ	۷۱
۵۳	سچ مسئلہ بتانے کا اہتمام	۷۲
۵۵	مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادگی و تعمیر کے لیے مشورہ	۷۳
۵۶	صفیں سیدھی کرانے کا اہتمام	۷۴
۵۶	رات گئی بات گئی	۷۵
۵۶	حدیث بیان کرنے میں احتیاط	۷۶
۵۷	تلاوت قرآن کا شوق	۷۷
۵۷	دست عثمان رضی اللہ عنہ میں کنکریوں کی تسبیح	۷۸
۵۸	داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا انجام	۷۹
۵۸	اتباء سنت کا اہتمام	۸۰
۵۹	فراست عثمان رضی اللہ عنہ پر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف	۸۱
۵۹	عام مسلمانوں کی رائے کا خیال رکھنا	۸۲
۶۰	صلہ رحمی کے اہتمام پر طعن و تشنیع برداشت کرنا	۸۳
۶۰	انصاف کی انتہاء	۸۴
۶۱	پہلا مقدمہ اور حیران کن فیصلہ	۸۵

۶۱	منیٰ میں چار رکعت پڑھنے کی وجہ بیان کرنا	۸۶
۶۲	اتباع سنت میں مسکرانا	۸۷
۶۲	خلاف سنت عمل پر ناراضگی	۸۸
۶۳	معزولی اور مکان کی تلافی کرنا	۸۹
۶۳	باندی سے بھی پردے کا اہتمام	۹۰
۶۳	دقیقہ سنجی	۹۱
۶۳	اہلیہ کے لیے لباس فاخرہ خریدنا	۹۲
۶۳	تدوین قرآن کی سعادت	۹۳
۶۵	اتباع سنت کا اہتمام جگہ اور فعل میں بھی	۹۴
۶۶	حق دار ہونے کے باوجود اختیار دینا	۹۵
۶۶	متاخرین پر احسان کی ایک صورت	۹۶
۶۷	ایک رکعت میں قرآن پڑھنا	۹۷
۶۷	ہندوستان پر لشکر کشی کا ارادہ	۹۸
۶۸	سمندری سفر پر جانے والوں کو مشورہ	۹۹
۶۹	صاحب العیال کے لیے وظیفہ مقرر کرنا	۱۰۰
۶۹	خیانت پر داماد کو معزول کرنا	۱۰۱
۷۰	اجرائے حد میں احتیاط	۱۰۲
۷۰	عوام کو قانون سے کھیلنے پر تنبیہ	۱۰۳
۷۱	حالت حصار کے مختلف واقعات	۱۰۴
۷۱	مسلمانوں کا خون صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہے	۱۰۵
۷۲	باغیوں کو وعظ کرنا	۱۰۶

۷۳	ذوالنورین کے بے نظیر نظریات	۱۰۷
۷۴	ایک قتل ساری انسانیت کا قتل	۱۰۸
۷۴	جنگ کے لیے اپنی ذات کے لیے وجہ نہ بننے دینا	۱۰۹
۷۵	مخالفین کو اللہ کے حوالے کر دینا	۱۱۰
۷۵	خون نہ بہانے کی قسم دینا	۱۱۱
۷۶	مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ رہنے کی وصیت	۱۱۲
۷۷	صبر و برداشت کی لازوال مثال	۱۱۳
۷۸	اپنی جان سے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کا فکر	۱۱۴
۷۸	خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات	۱۱۵
۷۹	اپنی بات سے فتنہ کا اندیشہ	۱۱۶
۷۹	حالت حصار میں بھی تلاوت قرآن کا اہتمام	۱۱۷
۷۹	مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و عشق	۱۱۸
۸۰	حج کے لیے نائب مقرر کرنا	۱۱۹
۸۰	خادموں کی خدمت کرنا	۱۲۰
۸۱	عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت	۱۲۱
۸۱	فراست مومن کی نظیر	۱۲۲
۸۲	حرمت حرم اور ایذائے مسلم کا خیال	۱۲۳
۸۲	منصب کے لیے اہلیت و استعداد پر کھنا	۱۲۴
۸۳	غایت انصاف کا نمونہ	۱۲۵
۸۳	بدوعا کا اثر	۱۲۶
۸۴	شہادت عظمیٰ	۱۲۷

## ❖ مقدمہ ❖

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام میں جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے وہ "السا بقون الاولون" میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ذوالنورین تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا اور فرمایا (جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا) "اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔" وہ غنی تھے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت کو دین اور ملت کی نذر کر دیا۔ (جیسا کہ آپ پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ) ان ہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "بیعة الرضوان" لی۔ انہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو مسجد الحرام کی توسیع کرانے کی سعادت میسر آئی۔ انہوں نے تمام عالم اسلام کو ایک مصحف اور قرأت پر جمع کیا اور جامع القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی سیرت کے غیر معمولی اوصاف کے پیش نظر امت نے ان کے لیے "کامل الحیاء والایمان" کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے عہد کی فتوحات تاریخ اسلام کا ایک شاندار باب ہے۔ انہوں نے آرمینیا، آذربائیجان، ایشیا کے چمک، ترکستان، کابل، سندھ، قبرص اور اسپین وغیرہ میں عربوں کے سیاسی اقتدار کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں۔ ان ہی کے زمانے میں بحری طاقت منظم ہوئی۔

زندگی کے یہ کتنے مختلف النوع گوشے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنی سیرت کا غیر فانی نقش چھوڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ملت اسلامیہ کو فتنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ سازشوں کا ہر طرف جال بچھا ہوا تھا۔ باغی آمادہ پیکار گھوم رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اور ملت کو انتشار اور ابتری سے بچانے کے لیے نہ صرف ہر صعوبت اور اذیت کو برداشت کیا۔ بلکہ بخوشی اپنا سر دے دیا۔ باغیوں کا مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ عدم استطاعت کی بناء پر نہ تھا۔ بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر تھا۔



بہر حال یہ مقام اس بحث کا متقاضی نہیں ہے۔ اس پر سیر حاصل کلام اور معترضین کے جوابات کے لیے علماء ربانیین نے کتب تحریر فرمائیں ہیں۔ جن میں ہمارے نزدیک مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کی کتاب ”حضرت عثمان ذوالنورین“ اپنے مواد اور تحقیق و تنقیح کے اعتبار سے بہترین کاوش ہے۔ (جزاہ اللہ خیراً) واقعات کی طرف جانے سے پہلے مناسب ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

### نام و نسب اور خاندان:

عثمان نام، ابو عبد اللہ اور ابو عمر و کنیت، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروی تھا۔ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مجد و شرف اور عزت و وجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد انہیں کا مرتبہ تھا۔ حرب نجار (یہ جنگ قریش اور قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں کے فوجی دستے الگ الگ تھے۔ آل ہاشم کا فوجی دستہ زبیر بن عبد المطلب کے کمانڈ میں تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستے میں شامل تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا اور آخر کار صلح پر خاتمہ ہو گیا) میں جو شخص سپہ سالار اعظم کی حیثیت رکھتا تھا وہ اسی خاندان کا ایک نامور سردار حرب بن امیہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم (یا حکم) بیضاء بنت عبد المطلب یعنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

### ولادت:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے ۴۷ برس قبل بمطابق ۵۷۷ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن اور جوانی کے حالات پردہِ خفا میں ہیں۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چند اور نمایاں لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

پیشہ:

قریش کا عام پیشہ تجارت تھا۔ اس میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ ایلاف میں گرمی اور سردی کے موسم میں قریش کے تجارتی قافلوں کا ذکر ہے، قریش کے اسی عام مذاق کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور ایک شخص ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے پیمانہ پر شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب ہی عثمان غنی ہو گیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ اسی بناء پر قریش میں نہایت معزز و محترم تھے۔ اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ضرب المثل بن گئی تھی۔ چنانچہ عرب کہا کرتے تھے ”أَجْحَكْ وَالرَّحْمَنُ حُبَّ قُرَيْشِ عَثْمَانَ“ ترجمہ:- میں تجھ سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔

سلامتِ فطرت:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فطرتاً بڑے نیک، راست باز اور ایمان دار تھے۔ شراب عرب کی کھٹی میں پڑی تھی۔ جو لوگ پیتے تھے فخر کرتے اور نہ پینے والے کو طعن کرتے کیونکہ ان کے نزدیک شراب نہ پینا بخل کی علامت تھا۔ لیکن اس ماحول میں دولت و ثروت کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ ان چند اکابر قریش (مثلاً حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ) میں سے تھے جو سلیم الفطرت ہونے کے باعث شراب سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح گانا بجانا، لہو و لعب اور زنا کاری عرب کے پسندیدہ مشاغل میں تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں سے بھی طبعاً مجتنب تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا: میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ کبھی زنا کیا ہے نہ شراب پی ہے اور نہ گانا بجایا ہے۔

## قبولِ اسلام:

طبیعت کی اس نیکی اور حق پرستی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہلے پہل جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا۔ اور یہ صدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرف باسلام ہو گئے۔ خود ان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا تھا۔

## حلیہ مبارک:

آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں۔ بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے۔ جب عمامہ زیب سر کر لیتے تھے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ ناک ابھری ہوئی۔ جسم کا نچلا دھڑ بھاری۔ پنڈلیوں اور دونوں بازوؤں پر بال کثرت سے تھے۔ سینہ چوڑا چکلا۔ کاندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی۔ چہرہ پر چچک کے کچھ نشانات، دانت ہموار اور خوبصورت جن کو سونے کی تار سے باندھا گیا تھا۔ داڑھی بڑی گنجان، زلف دراز، اخیر عمر میں زرد خضاب کرنے لگے تھے۔ جسم کی کھال ملائم اور باریک تھی۔

## لباس:

بڑے پیمانہ پر تجارت کے باعث دولت مند شروع سے ہی تھے۔ اس لیے فاما بن نعمہ ربک فحدث کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ آپ کی طبیعت کا شیوہ تھا۔ چنانچہ لباس بھی عمدہ قسم کا استعمال کرتے تھے۔ اُس زمانہ میں یمنی چادریں بہت وقیع اور قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ آپ انہیں اوڑھتے تھے۔ عموماً یہ چادریں زرد رنگ کی ہوتی تھیں۔ اور ان کی قیمت سو درہم کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ اور اپنے لباس میں بھی سنت کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آدمی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسی ہوا کرتی تھی۔

## غذا:

غذا بھی عمدہ اور پُر تکلف استعمال کرتے تھے۔ آپ پہلے فرماں رواں تھے جن کے لیے آنا چھنا جاتا تھا۔

## اندازِ گفتگو:

فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے۔ لیکن جب کسی موضوع پر اظہار خیال فرماتے تو گفتگو سیر حاصل کرتے اور بلیغ کرتے تھے۔

## دینی خودداری اور حمیت:

اسلام نے اس فطرت کو چمکا کر مٹھلی اور مصطفیٰ کر دیا تھا۔ اس بناء پر دینی عزت نفس اور خودداری آپ میں اس درجہ کی تھی کہ نازک سے نازک موقع پر بھی آپ میں پلک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ مبادا وہ وقت آجائے کہ تمہارے بُروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے۔ اور ان بُروں کے خلاف نیک لوگ بددعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔

## عبادت و خشیت:

عبادت قرب الہی اور انابت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے چند در چند مشاغل اور گونا گوں مصروفیتوں کے باوجود عبادت کثرت سے کرتے اور فرائض و واجبات کے علاوہ مندوبات و نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نماز بے حد خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ اس میں اس درجہ محویت ہوتی تھی کہ گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خشیت الی اللہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی چنانچہ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جاننے سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں طرف میں سے کس میں جانا ہے۔

## اخلاق حمیدہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کی تشکیل اور کردار کی تعمیر اس حد تک کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے۔ آپ کی خصالت انبیاء علیہم السلام کے طرز پر تھیں۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سب صحابہ سے خلق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔

## منکسر المزاج:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے حد منکسر المزاج و متواضع تھے۔ اور اپنے جاہ و جلال کا خیال نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ واپس آتے تو مدینہ سے ذرا پہلے مَعْرَسِ مَسْجِد (ذوالخلیفہ) میں قیام فرماتے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوئے تو سواری پر پیچھے کسی کو ضرور بٹھاتے اور کوئی نہ ملتا تو کسی لڑکے کو بھی بٹھالیتے اور اسی حال میں مدینہ میں داخل ہوتے۔

راوی کہتے ہیں کہ کیا تواضع کے خیال سے بٹھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تواضع کے خیال سے بھی بٹھاتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ پیدل آدمی کو سواری مل جائے۔ اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں (کہ وہ تو کسی عام آدمی کو اپنے پیچھے بٹھاتے نہیں)

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ہمدانی نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ خچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام ناکل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے۔

## خدمت سے گریز:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے لیے خدمت بہت کم لیا کرتے تھے۔

حالانکہ خدام کئیوں کی بہتات تھی۔ لیکن ان کے آرام کا خیال رکھتے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اپنے وضوء کا انتظام خود کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا اگر آپ اپنے کسی خادم سے کہہ دیں تو وہ یہ انتظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے۔ جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ (تہجد کے وقت) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ جگاتے۔ ہاں اگر کوئی از خود اٹھا ہوا ہوتا تو اسے بلا لیتے اور وہ آپ کو وضوء کے لیے پانی لا دیتا۔

### پہرہ کا عدم اہتمام:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہرے کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے چنانچہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا حالانکہ اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے۔

### تقویٰ و طہارت:

تقویٰ و طہارت آپ کا جوہر ذاتی تھا، فواحش و منکرات کا کیا ذکر کروا تا تک سے آپ کو طبعی نفرت تھی۔

### ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پروانہ وار عشق و محبت کا لازمی نتیجہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات اشارۃً و کنایۃً بھی فرمائی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو امر محکم کی طرح گرہ میں باندھ لیا ہے اور اس کی بجا آوری کو اپنا وظیفہ زندگی سمجھا ہے۔

## غلاموں کی آزادی:

غلام آزاد کرنا اسلام میں ایک بڑی عبادت اور عظیم کارِ ثواب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اور اگر کسی جمعہ میں ایسا نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعہ کو ایک ساتھ دو غلام آزاد کر دیتے۔

## جمع قرآن:

اگر اسلام میں ہر فعل جو احکام خداوندی کے ماتحت ہو اور جس کا مقصد حصول رضائے الہی ہو دینی اور مذہبی فعل ہے اور اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تمام کارنامے دینی کارنامے ہیں۔ تاہم سب سے بڑا اور نہایت عظیم الشان دینی کارنامہ مصحفِ عثمانی کی ترتیب و تدوین ہے۔ یہی وہ کارنامہ ہے جس کے باعث قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ (تفصیلی ذکر آگے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ)۔

## انشاء و تحریر:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تحریر و انشاء میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی تحریریں خطوط کی شکل میں حدیث و تاریخ اور ادب کی کتابوں میں محفوظ ہیں (جو کہ اب اردو میں ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط“ مصنفہ پروفیسر خورشید احمد صدر شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی۔ کے نام سے منظرِ عام آچکے ہیں) ان پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ کلام مَسَقَلَّ وَ ذَلَّ کا مصداق ہوتا ہے۔ الفاظ مرصع اور جملے کے جملے فصاحت و بلاغت کی جان اور نہایت موثر و دلنشین ہوتے ہیں۔

## اقوال عثمان رضی اللہ عنہ:

- (۱) غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔
- (۲) تارک دنیا خدا کا، تارک گناہ فرشتوں کا اور تارک طمع مسلمانوں کا محبوب ہوتا ہے۔
- (۳) چار چیزیں بیکار ہیں: (۱) وہ علم جو بے عمل ہو۔ (۲) وہ مال جو خرچ نہ کیا

جائے۔ (۳) وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے۔ (۴) وہ لمبی عمر جس میں سامانِ آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔

(۴) فرمایا مجھے دنیا میں تین باتیں پسند ہیں: (۱) بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ (۲) گنلوں کو کپڑا پہنانا۔ (۳) قرآن مجید خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔

(۵) فرمایا بظاہر چار باتوں میں ایک خوبی ہے مگر حقیقت میں چاروں کی تہہ میں چار ضروری امر بھی ہے: (۱) نیکو کاروں سے ملنا ایک خوبی ہے۔ مگر ان کا اتباع کرنا ایک ضروری امر ہے۔ (۲) تلاوت قرآن مجید ایک خوبی ہے۔ مگر اس پر عمل کرنا ضروری

ہے۔ (۳) مریض کی عیادت ایک خوبی ہے مگر اس کی وصیت (مکمل) کرنا ایک ضروری امر ہے۔ (۴) زیارت قبور ایک خوبی ہے۔ مگر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔

(۶) فرمایا مجھے چار باتوں میں عبادت الہی کا مزہ آتا ہے: (۱) فرائض کی ادائیگی میں۔ (۲) حرام اشیاء سے پرہیز کرنے میں۔ (۳) امید اجر پر نیک کام کرنے میں۔

(۳) اور خوف خدا سے برائیوں سے بچنے میں۔

(۷) فرمایا متقی کی پانچ علامات ہیں: (۱) ایسے شخص کی صحبت میں رہنا جس سے دین کی اصلاح ہو۔ (۲) شرمگاہ اور زبان کو قابو میں رکھنا۔ (۳) مسرت دنیا کو وبال خیال کرنا۔ (۴) شبہات کے خوف سے حلال سے بھی (احتیاطاً) پرہیز کرنا۔ (۵) اپنے بارے میں یقین ہونا کہ بس ایک میں ہی ہلاکت میں پڑا ہوں۔

(عشرہ ہشرہ ص ۹۲ بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی)

(عشرہ ہشرہ ص ۹۲ بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی)

(عشرہ ہشرہ ص ۹۲ بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی)

(عشرہ ہشرہ ص ۹۲ بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی)

## امورِ خلافت و انتظامِ ملکی:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت علی منہاج النبوت پر قائم و دائم رکھی۔

مجلس شوریٰ بالکل اسی طرح برقرار رکھی جس طرح آپ سے پیشتر خلفاء کے دور میں تھی۔

اہم امور میں آپ تمام اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم، مشیرانِ خلافت اور ضرورت

پڑنے پر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے مشورہ لیتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ



فرماتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق و مغرب کی انتہاء تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ خدائی لشکر ایک طرف اقصیٰ مشرق تک اور دوسری طرف انتہاء مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ اور مجاہدین کی آبدار تلواریں خدا کی توحید کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، قبر وان، سیقہ یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے۔

دوسری طرف مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی۔ آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل و خوار ہوا۔ اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمان میں پہنچوائے۔ آپ کے زمانے کو دیکھئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ”زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی ہے۔“

### اولیات عثمان رضی اللہ عنہ:

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سے کاموں کا اجراء فرمایا جن میں سے چند یہ ہیں۔ (۱) بیت المال سے موذین کے لیے وظائف کا تقرر فرمایا۔ (۲) تکبیر میں آواز پہنچی رکھنے کا حکم دیا۔ (۳) تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر متفق کیا۔ (۴) جمعہ کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا۔ (۵) زمینوں پر مالکانہ حقوق کے پروانوں کا اجراء فرمایا۔ (۶) بیت المال کے اونٹوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے چراگا ہوں کا بندوبست فرمایا۔ (۷) دارالقضاء کے لیے علیحدہ عمارت تعمیر فرمائی اور حج مقرر کیے۔ (۸) بیت المال، مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر فرمائیں۔ (۹) جدہ کی بندرگاہ اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی۔ (۱۰) جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کروائے۔ (۱۱) اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے رومہ کا کنواں خریدا۔ (۱۲) اسلام

میں اول مہاجر مع اہل و عیال فی سبیل اللہ ہیں۔ (۱۳) ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ (۱۴) سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے فرمایا۔ (۱۵) مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا۔ (۱۶) جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائیں۔ (۱۷) بحری افواج قائم کیں اور بحری فتوحات بھی آپ کے عہد میں ہوئیں۔

### کتابت وحی:

چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لہذا اسلام لانے کے بعد آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے خود عثمان رضی اللہ عنہ کو اس گھر میں دیکھا ہے کہ رات کے وقت گرمی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گرانی محسوس کر رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وحی لکھ رہے ہیں۔ اپنا یہ مشاہدہ بیان کرنے کے بعد ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ قرب و اختصاص کا شرف اللہ تعالیٰ اسی شخص کو عطا فرما سکتا ہے جو اعلیٰ اخلاق و صفات کا انسان ہو۔

### ازواج و اولاد:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ تھا۔ لیکن ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر جلد انتقال ہو گیا۔ اسی کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ ۳ھ میں غزوہ بدر جس روز ختم ہوا اسی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن خواتین سے نکاح کیا ان کے نام یہ ہیں:

- (۱) فاختہ بنت غزوان: قبیلہ مضر سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام عبداللہ الاصغر تھا۔ نوعمری میں انتقال ہوا۔
- (۲) ام عمرو بنت جندب: قبیلہ ازد سے تعلق تھا۔ ان سے عمرو، ابان، خالد اور عمر چار لڑکے اور مریم ایک لڑکی پیدا ہوئی۔
- (۳) فاطمہ بنت الولید: ام عبداللہ کنیت۔ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق تھا۔ ولید، سعید دو لڑکے اور ام سعید ایک لڑکی ان سے پیدا ہوئی۔
- (۴) اسماء بنت ابی جہل بن ہشام: ان سے ایک لڑکا مغیرہ پیدا ہوا۔
- (۵) ملیکہ بنت عیینہ بن حصن الفزاری: کنیت ام النمین، ان سے صرف ایک لڑکا بعد الملک پیدا ہوا اور جلد ہی انتقال ہو گیا۔
- (۶) رملہ بنت شمیمہ بن ربیعہ۔ ان سے تین لڑکیاں ہوئیں۔ ام ابان۔ ام عمرو اور عائشہ۔
- (۷) نائلہ بنت القرافصہ الکلمی۔ ان سے حسب ذیل اولاد ہوئی مریم الصغری، ام خالد، اروئی، ام ابان الصغری اور عدیہ۔
- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت یہی موجود تھیں۔<sup>۱</sup> (واضح رہے کہ یہ تمام زوجات یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ ایک دقت میں چار ہی کی اجازت ہے۔)

### قصہ نمبر ۱ ﴿حالتِ سفر میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا﴾

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام کی حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا (جن) ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا تو اندر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ احمد ﷺ کا ظہور ہو گیا۔ اور ایسا حکم آ گیا ہے جو بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکہ میں حضور ﷺ کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۶۳۶ بحوالہ البدایہ ج ۲ ص ۳۳۸)

### قصہ نمبر ۲ ﴿عیادت کی برکت سے نعمتِ اسلام سے سرفراز ہونا﴾

حضرت عمرو بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اردوی بنت عبدالمطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لئے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور ﷺ وہاں تشریف لے آئے میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثمان! تمہیں کیا ہوا (مجھے غور سے دیکھ رہے ہو) میں نے کہا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔

اس پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فُورَبِ السَّمَاءِ

وَلَا رِضٌ أَنَّهُ لِحَقِّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْتَقُونَ﴾ (النہد ۲۲، ۲۳)

”اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی، کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔“

پھر حضور ﷺ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔

(حیاء الصحابہ ج ۱ ص ۸۵ بحوالہ الاستیعاب ج ۳ ص ۲۲۵)

### قصہ نمبر ۳ ﴿اظہار اسلام پر تکالیف﴾

حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابوالعاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ اور کہا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو؟ اور اللہ کی قسم! جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دین پر بڑے کپکپے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔

(حیاء الصحابہ ج ۱ ص ۳۶۵ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۳۷۷)

### قصہ نمبر ۴ ﴿تعاون علی البر کی مثال﴾

خلیفہ سوم مقرر کرنے کے دوران حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس خلافت کے منصب سے خود بخود دستبردار ہو جائے۔ اور پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین اور اہل شخصیت کو خلیفہ بنوائے، آپ کی اس تجویز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں خود دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔

اس پر حضرت عثمان نے فرمایا میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کیونکہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے“ باقی لوگوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ (حضور ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا)

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۳۰)

### قصہ نمبر ۵ ﴿﴾ امارت سے استغناء ﴿﴾

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس دن تشریف لائے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ تم بھی بیعت کر لو۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ تمام اہل قریش نے ان کی حمایت کی ہے؟ وہ بولے ہاں اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تمہیں اس معاملہ کا اختیار ہے اگر تم انکار کرو گے تو میں اس معاملہ کو لوٹا دوں گا۔ وہ بولے کیا آپ لوٹا دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں پھر پوچھا کہ کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی بیعت کرنے پر رضامند ہوں اور میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کر لی۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۳۵)

### قصہ نمبر ۶ ﴿﴾ دوسروں سے نصیحت چاہنا ﴿﴾

حمران بن ابان روایت کرتے ہیں کہ خلافت کی بیعت کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ انہیں بلا کر لاؤں۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے آپ کی

نصیحت کی آج سخت ضرورت ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مندرجہ ذیل پانچ باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں تو قوم آپ کی کبھی مخالفت نہیں کرے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر (۱) قتل سے صبر کرنا (۲) لوگوں سے محبت کرنا (۳) لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پوشیدہ رکھنا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۰۸)

### قصہ نمبر ۷ ﴿ سخاوت و حسن جمال کا پیکر ﴾

ابن سعید بن یزید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا ایک شیخ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) حسن العجبہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کے سر کے نیچے اینٹ تھی یا اینٹ کا ٹکڑا تھا۔ میں کھڑا کھڑا رہ گیا۔ ان کی طرف دیکھتا تھا اور ان کے حسن و جمال سے متعجب و حیران تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا۔ اے لڑکے! تم کون ہو؟ میں نے انہیں اپنے متعلق بتلایا۔ ان کے قریب ایک لڑکا سویا ہوا تھا۔ آپ نے اسے بلایا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے مجھے فرمایا اسے بلاؤ تو میں نے اسے بلایا تو آپ نے اسے کوئی حکم دیا اور مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا اور ایک حلہ اور ایک ہزار درہم لے کر واپس آ گیا۔ مجھے وہ حلہ (جوڑا) پہنا دیا اور ہزار درہم اس (جوڑے کی جیب میں) ڈال دئے۔

میں اپنے باپ کے پاس آیا اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی انہوں نے کہا تیرے ساتھ یہ (حسن سلوک اور جو دو گرم) کس نے کیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں سو رہا تھا۔ اور میں نے اس سے زیادہ صاحب حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا میرے والد نے کہا وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔

(حضرت عثمان غلیفہ مظلوم ص ۶۲)

## قصہ نمبر ۸ ﴿حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان سے حیا کرنا﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ (گھر میں) بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لیکر اندر آئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے حضور ﷺ باتیں کر رہے تھے۔ اور حضور ﷺ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے (باقی حضرات کے آنے پر تو حضور ﷺ ایسے ہی رہے لیکن) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضور ﷺ نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا ڈال دیا۔ او اپنی زوجہ محترمہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ) سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرات حضور ﷺ سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ﷺ! میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ تو گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہونے کو کہا۔

حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور رسول ﷺ سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہو تیں تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سراٹھا سکتے (احکامات حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے)

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۲۹۹ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۲۰۳)

## قصہ نمبر ۹ ﴿قبر کا خوف﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو



جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کیلئے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں۔ اور جو اس (کے عذاب) میں پھنس گیا اس کیلئے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور ﷺ سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہٹ والا نہ ہو۔ اور حضرت ہائی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قبر پر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

فان تنج منها تنج من ذی عظیمۃ

والا فانی لا اخالک ناجیا

(اے قبر والے!) اگر تم اس گھائی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم بڑی زبردست گھائی سے چھوٹ گئے۔ ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں مل سکے گی۔

(حیۃ الصحابہ ج ۲ ص ۸۴ بحوالہ ترمذی و ابویسع فی اہلیہ ج ۱ ص ۶۱)

### قصہ نمبر ۱۰ ﴿تجدید کعبہ کیلئے سختی کرنا﴾

۲۶ ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ کی تجدید اور توسیع کا حکم دیا اور اس مقصد کیلئے انہوں نے ایک جماعت سے کچھ زمین خریدی۔ جبکہ کچھ لوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارتیں گرا دیں اور ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں۔ بعد میں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر چیخ و پکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو میری شرافت اور میرے حکم کی وجہ سے مجھ پر چلانے کی جسارت ہوئی ہے۔ جبکہ تمہارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی کارروائی کی تو تم ان پر نہیں چلاتے تھے۔ آخر کار عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۵۸)

### قصہ نمبر ۱۱ ﴿ رعایا کے ساتھ حسن سلوک ﴾

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا اے اہل مدینہ! لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم! میں تمہارے مال و جائیداد کو تمہارے پاس منتقل کر سکتا ہوں۔ بشرطیکہ یہ تمہاری رائے ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جو اہل عراق کے ساتھ فتوحات میں شریک ہوا ہو وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہو جائے۔ اس پر اہل مدینہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین! آپ ہمارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان اراضی کو کسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھول دیا ہے جو ان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۸۵)

### قصہ نمبر ۱۲ ﴿ انگوٹھی کی کمشدگی ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا۔ ایک دفعہ آپ اس کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوٹھی (کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور مہر استعمال کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں استعمال کیا۔ اور اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی) کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو بہت تلاش کیا یہاں تک کہ اس کا سارا پانی نکلا دیا پھر بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔

بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو بھی شخص اس انگوٹھی کو لے کر

آئے گا۔ اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس خاتم مبارک کے گم ہونے کا بہت رنج و غم ہوا۔ اور اس کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ تلاش بسیار کے بعد بھی آپ کو وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اور جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہو بہو ویسی ہی انگوٹھی بنائی گئی۔ اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی بھی غائب ہو گئی۔ اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اس انگوٹھی کو لے گیا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۸۷)

### قصہ نمبر ۱۳ ﴿احساسِ ذمہ داری﴾

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور دولت مندوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کو جمع کریں۔ چنانچہ یہ لوگ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو ذر! میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض کو ادا کروں اور رعایا کے ذمہ جو واجبات ہوں انہیں وصول کروں۔ اس لیے میں انہیں زاہد بننے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ البتہ میں انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کر سکتا ہوں۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۸۹)

### قصہ نمبر ۱۴ ﴿اکرام اور پتے کی بات﴾

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ سے باہر رہنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا۔ لیکن

جب ان کا اصرار بڑھا تو اجازت دے دی اور جاتے ہوئے انہیں اونٹوں کا ایک ریوڑ بھی دیا اور دو غلام بھی دیئے اور انہیں یہ بھی کہا کہ تم مدینہ آیا جایا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اعرابی بن جاؤ۔ چنانچہ ابوذر رضی اللہ عنہ ربذہ چلے گئے اور ایک مسجد بنائی اور مدینہ تشریف لایا کرتے تھے۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۸۹)

### قصہ نمبر ۱۵ ﴿میقات کا خیال رکھنے کی تاکید﴾

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فتوحات کثیرہ پر شکرانے کے طور پر عمرہ کی نیت کی اور نیشاپور سے احرام باندھا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (نیشاپور) خراسان سے احرام باندھنے پر ان کو ملامت کیا اور فرمایا ”کاش کہ تم اس میقات سے احرام باندھتے جہاں سے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں۔“

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۱۹)

### قصہ نمبر ۱۶ ﴿برائی کا قلع قمع کرنا﴾

حکیم بن عباد روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اور لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو دولت مندی انتہاء تک پہنچی تو وہاں سب سے پہلے جو برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتروں کو اڑانا اور مختلف چیزوں کی نشاندہ بازی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس بے راہ روی کو روکنے کی خاطر اپنی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیث کے ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ ان کبوتروں کے پر کاٹے اور نشاندہ بازی کے مراکز کو ختم کرے۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۰۶)

## قصہ نمبر ۱۷ ﴿اجتماعی ضرورت کی خاطر کتم حدیث کا حکم﴾

حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اور لوگوں کے قاضی بن جاؤ۔ ان میں فیصلے کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے اس سے معاف رکھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ تم جا کر لوگوں کے قاضی ضرور بنو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جلدی نہ کریں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ چاہی وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں قاضی بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم قاضی کیوں نہیں بنتے ہو؟ حالانکہ تمہارے والد تو قاضی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنا اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوزخی ہے۔ اور قاضی عالم ہو اور حق و انصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی یہ چاہے گا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر برابر سراسر چھوٹ جائے (نہ انعام ملے اور نہ کوئی سزا لگے) اب اس حدیث کے سننے کے بعد بھی میں قاضی بننے کی اُمید کر سکتا ہوں؟

اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دیا لیکن تم کسی اور کو یہ بات نہ بتانا (ورنہ اگر سارے ہی انکار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون بنے گا؟ یہ اجتماعی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟)

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۸۶ بحوالہ بیہمی ج ۲ ص ۱۹۳)

## قصہ نمبر ۱۸ ﴿استصواب رائے﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس مسئلہ میں شبہ ہوتا اور اس کے متعلق کوئی صحیح

رائے قائم نہ کر سکتے تو دوسرے صحابہ سے استفسار فرماتے اور عوام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران ایک شخص نے پرندہ کا گوشت پیش کیا جو شکار کیا گیا تھا۔ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو شبہ ہوا کہ حالت احرام میں اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمسفر تھے۔ ان سے استصواب کیا انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۱ بحوالہ مستدرک ابن جنبل ج ۱ ص ۱۰۰)

### قصہ نمبر ۱۹ ﴿فریضہ تبلیغ دین﴾

نایب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم فرض دین کی خدمت اور اس کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحظہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے ان کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کر کے ان کو دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لہذا ایک دفعہ بہت سی رومی لوٹدیاں گرفتار ہو کر آئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ان کے پاس جا کر تبلیغ اسلام کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ دو دعوتوں نے متاثر ہو کر کلمہ توحید کا اقرار کیا اور دل سے مسلمان ہوئیں۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۰ بحوالہ ادب المفرد باب خفض المراء)

### قصہ نمبر ۲۰ ﴿نگلۃ فقاہت﴾

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ اور اپنی چادر ایک شخص پر جو خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا تھا ڈال دی۔ اتفاق سے اس پر ایک کبوتر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ چادر کو اپنی بیٹھ سے گندہ نہ کر دے اس کو اڑا دیا۔ کبوتر اڑ کر دوسری جگہ جا بیٹھا۔ وہاں اس کو ایک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ

عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے کفارہ کا فتویٰ دیا کیونکہ وہ اس کبوتر کو ایک محفوظ مقام سے غیر محفوظ مقام میں پہنچانے کا باعث ہوئے تھے۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۶ بحوالہ مسند شافعی ص ۷۹)

### قصہ نمبر ۲۱ ﴿اپنی ذات کو مشورہ کے تابع رکھنا﴾

جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گئی تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کو کشادہ کرنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ مروان بن حکم موجود تھا۔ اس نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے قربان! اس معاملہ میں مشورہ کی کیا ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں اضافہ کا ارادہ کیا تو کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر برہم ہو گئے، فرمایا: خاموش! عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ ان سے اس درجہ خوف کھاتے تھے کہ اگر وہ لوگوں سے کہتے کہ گوہ (ایک جانور جسے عربی میں ضب کہتے ہیں اور جو دھوکہ دینے میں ضرب المثل ہے) کے بھٹ میں گھس جاؤ تو لوگ اس میں گھس جاتے۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نرم ہوؤں۔ اس لیے محتاط رہتا ہوں کہ وہ احتجاج نہ کریں۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۲۸ بحوالہ وفاء الوفاء ج ۲ ص ۵۰۸)

### قصہ نمبر ۲۲ ﴿کلمہ خیر کا فوراً اتباع کرنا﴾

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سات لاکھ کی قیمت پر ان کی اراضی خریدی۔ اور رقم لے کر ان کے پاس گئے، طلحہ نے فرمایا ایک شخص سے یہ معاملہ کر رہا ہوں مگر اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کا کیا حکم نازل ہونے والا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے قاصد کے ذریعہ اس مال کو رات بھر تقسیم کر لیا حتیٰ کہ صبح تک ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں بچا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۱۲)

### قصہ نمبر ۲۳ ﴿جائز سفارش کرنا﴾

ربیع بن الحارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ عہد جاہلیت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شریک تھے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو عباس بن ربیع نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ابن عامر کو تحریر فرمائیں کہ وہ مجھے بطور قرض کے ایک لاکھ رقم دیدے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے تحریر کر دیا اور ابن عامر نے انہیں ایک لاکھ کی رقم دے دی۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا گھر بطور ہدیہ کے دے دیا اور آج تک ان کا گھر عباس بن ربیع کا گھر کہلاتا ہے۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۱۲)

### قصہ نمبر ۲۴ ﴿اعمالِ سحر پر گرفت﴾

محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ ابن ذی الجبکہ نبہدی نیرنج جادو کا کام کیا کرتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے اس کام کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے ولید بن عقبہ کو لکھا کہ اس بارے میں ابن ذی الجبکہ سے پوچھا جائے اگر وہ اقرار کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے انہیں بلوایا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں یہ عجیب و غریب شعبہ بازی کا کام ہے اور اقرار کیا تو ولید بن عقبہ نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا اور عوام کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کو پڑھ کر سنایا گیا کہ ”یہ معاملہ نہایت سنجیدہ اور سنگین ہے اس لیے تم لوگ بھی سنجیدگی اختیار کرو اور ہنسی مذاق اور دل لگی سے بچو۔ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک اس کی اطلاع کیسے پہنچی؟

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۱۰)

### قصہ نمبر ۲۵ ﴿اعزازِ سفارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (صلح حدیبیہ کے موقع پر) حضرت عثمان رضی اللہ



عنه کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتادو کہ ہم (کسی سے) لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتادیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کمزور مسلمانوں کو (ایمان پر) جمانا چاہتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے (مکہ کے راستے میں) مقام بلد ح میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کہاں (جا رہے ہو؟) انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتادوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین گسی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔

(حیاء الصحابہ ج ۱ ص ۲۰۲ بحوالہ کنز العمال ج ۵ ص ۲۸۸)

## قصہ نمبر ۲۶ ﴿وہی ہم آہنگی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم﴾

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف تھا جس کی طواف کی حسرت میں سب مسلمان آئے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ البتہ تم چاہو تو عمرہ کرو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! عثمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سب سے پہلے حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ نہیں جب تک میں طواف نہ کر لوں عثمان بھی نہیں کریں گے۔ (یہ ارشاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کامل اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔)

(حضرت عثمان خلیفہ مظلوم ص ۶۸)

### قصہ نمبر ۲۷ ﴿سب سے پہلے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت﴾

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (صحابہ میں سے) سب سے پہلے اللہ کے لئے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے حضرت نضر بن انس اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے)

(حیاء الصحابہ ج ۱ ص ۴۴۱ بحوالہ البدیۃ ج ۳ ص ۶۶)

### قصہ نمبر ۲۸ ﴿بامر مجبوری حدیث نہ سنانا﴾

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوصالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگو! میں نے حضور اقدس ﷺ سے ایک حدیث سنی تھی۔ لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی تاکہ (اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر) آپ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہوا کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ ہر آدمی اپنے لئے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو (میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کے راستے میں مدینہ سے چلے جانا)۔ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت کیلئے پہرہ دینا اور جگہوں کے ہزاروں سے بہتر ہے۔

(حیاء الصحابہ ج ۱ ص ۵۶۳ بحوالہ مسند احمد ج ۱ ص ۶۵)

### قصہ نمبر ۲۹ ﴿اہل بیت کی تعظیم اور ان سے محبت﴾

حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں حضرت عثمان نے جو بہت سے نئے قانون بنائے ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک جھگڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا۔

اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی پٹائی کی۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا تو اس سے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ تو اپنے چچا کی تعظیم فرمائیں اور میں انکی تحقیر کی اجازت دوں؟ اس آدمی کی اس گستاخی کو جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ بھی حضور ﷺ کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت پسند کیا (کہ حضور ﷺ کے چچا کے گستاخ کی پٹائی ہوگی)

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۷۱ بحوالہ منتخب الکفر ج ۵ ص ۲۱۳)

## قصہ نمبر ۳۰ ﴿ شیطانی وساوس سے نجات کی فکر ﴾

حضرت محمد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت عثمان کی شکایت کی۔ (یہ دونو حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پائے آئے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم! میں نے (ان کے سلام کو) سنا ہی نہیں۔ میں تو کسی گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی ان برے خیالات کو زبان پر نہیں لاسکتا۔ جب شیطان نے میرے دل میں یہ برے خیالات ڈالنے شروع کئے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور ﷺ سے پوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے نجات کیسے ملے گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ شیطان جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟

حضور ﷺ نے فرمایا ان سے نجات تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ (اور وہ کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ)

(حیاء الصحاہ ج ۲ ص ۲۴۵ بحوالہ منتخب الكنز ج ۱ ص ۷۴)

## قصہ نمبر ۳۱ ﴿ حدیث رسول ﷺ کی وجہ سے کچھ سبھائی نہ دینا ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں حضرت عثمان

رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے دو دفعہ یہ کہا اے امیر المومنین! کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہوگئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟

میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں البتہ یہ بات ہے کہ میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگئے تو) ان سے فرمایا آپ نے اپنے بھائی (سعد رضی اللہ عنہ) کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے کیا ہے۔ اور بات اتنی بڑھی کہ انہوں نے اپنی بات پر قسم کھالی اور میں نے اپنی بات پر قسم کھالی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ واتوب الیہ آپ میرے پاس سے ابھی گزرے تھے۔ اس وقت میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے حضور ﷺ سے سنی تھی اور وہ بات ایسی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میری نگاہ پر اور میرے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے (جس کی وجہ سے نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے)۔

میں نے کہا میں آپ کو وہ بات بتاؤں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے دعا کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ فرمایا (کہ دعا کے شروع میں اسے پڑھنا چاہیے) اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور حضور ﷺ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے پھر حضور ﷺ کھڑے ہو گئے (اور چل پڑے) میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میرے پیچھے سے پہلے کہیں حضور ﷺ گھر کے اندر نہ چلے جائیں اس لئے میں نے زمین پر پاؤں زور سے مارے اس پر حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ کون ہے (کیا) ابواسحاق ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اور تو کوئی بات نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ آپ نے دعا کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ کیا

پھر یہ دیرہانی آ گیا تھا اور آپ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔  
 حضور ﷺ نے فرمایا ہاں وہ مچھلی والے (حضرت یونس) علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کلمات کے ساتھ جو مسلمان بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۶۲۷ بحوالہ الکفر ج ۱ ص ۲۹۸)

### قصہ نمبر ۳۲ ﴿قبول ضیافت کی اچھوتی وجہ﴾

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو (شادی کے) کھانے پر بلایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (کھانے کیلئے) تشریف لائے تو فرمایا میرا تو روزہ تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی دعوت قبول کر لوں اور آپ کیلئے برکت کی دعا کر دوں (یعنی آنا ضروری ہے کھانا ضروری نہیں ہے۔)

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۶۳۱ بحوالہ الکفر ج ۵ ص ۶۶)

### قصہ نمبر ۳۳ ﴿من جانب اللہ لقب ذی النورین کا ملنا﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی اس حال میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مغموم بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے عثمان کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا کسی پر ایسا صدمہ گزرا ہے جو مجھ پر گزرا ہے۔ صاحبزادی رسول اللہ ﷺ انتقال کر گئیں جس بناء پر رشتہ سسرالی کا ہمیشہ کیلئے میرے اور آپ کے درمیان سے منقطع ہو گیا۔

اس پر حضور ﷺ فرمایا اے عثمان! تم یہ کیا کہتے ہو جبرائیل نے مجھ کو اللہ

تعالیٰ کا یہ پیام پہنچایا ہے کہ میں رقیہ کی بہن کلتوم کا نکاح اسی مہر اور اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت کلتوم رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ پھر جب بامر خداوندی حضرت کلتوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔

(تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۳۶۲ بحوالہ حاکم)

### قصہ نمبر ۳۴ ﴿برائی نہ دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا﴾

حضرت سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں آپ ان کے پاس جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں۔ البتہ برائی کے اثرات موجود ہیں تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔

(حیۃ الصحابہ ج ۲ ص ۷۵۵ بحوالہ ابونعیم فی الخلیفہ ج ۱ ص ۶۰)

### قصہ نمبر ۳۵ ﴿حضور ﷺ والا وضو سکھانا﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں موزن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک مد (تقریباً ۱۴ چھٹانک) پانی آتا ہوگا۔ اس سے وضو کیا پھر فرمایا کہ جیسا میں نے اب وضو کیا ہے۔ حضور ﷺ کو میں نے ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر

دیئے جائیں گے۔ پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر وہ مغرب پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزاردے گا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کے فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔

مجلس کے ساتھیوں نے پوچھا، اے عثمان! یہ تو حسنت ہو گئیں تو باقیات صالحات کیا ہوں گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا باقیات صالحات یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ الحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ  
(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۱۰۳ بحوالہ الترغیب ج ۱ ص ۲۰۳)

### قصہ نمبر ۳۶ ﴿ دنیا میں بدلہ چکانے کی فکر ﴾

حضرت ابو القرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا لہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا زور سے مروڑ۔ دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۱۴۵ بحوالہ الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ للمصنف الطبری ج ۲ ص ۱۱۱)

### قصہ نمبر ۳۷ ﴿ تحدیثِ نعمت اور بڑوں کی تعریف کرنا ﴾

عمرو بن امیہ الضمری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ طعام شب میں شریک تھا۔ خزیرہ (عرب میں ایک خاص قسم کا سالن ہوتا تھا جیسے خزیرہ کہتے تھے۔ اس کو بکری کی کلیجی، گردہ، دل اور گھی و دودھ سے تیار کیا جاتا تھا) سامنے آیا تو حضرت عثمان نے پوچھا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت لذیذ اور نفیس ہے۔ میں نے آج تک ایسا خزیرہ نہیں کھایا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے اللہ تعالیٰ عمر



بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، تم نے خزیرہ کبھی ان کے ساتھ بھی کھایا ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے کھایا ہے لیکن وہ خزیرہ ایسا تھا کہ نہ تو اس میں گوشت تھا اور نہ گھی نہ دودھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جہد و مشقت کی ایسی زندگی بسر کی ہے کہ اس کی پیروی کرنا مشکل ہے۔ وہ لذیذ نفیس غذاؤں سے اجتناب کرتے تھے۔ میں اللہ کی قسم مسلمانوں کے مال سے ایک پیسہ نہیں لیتا۔ جو کچھ کھاتا ہوں اپنی کمائی سے کھاتا ہوں۔

تم کو معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھا اور میرا تجارتی کاروبار سب سے بڑا تھا۔ میں ہمیشہ نرم غذاؤں کا عادی رہا ہوں۔ اور اب تو میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لئے مجھ کو نرم غذاؤں کی اور بھی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو اس معاملہ میں مجھ پر نکتہ چینی کا حق ہے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۷۴ بحوالہ طبری ج ۴ ص ۴۰۱)

### قصہ نمبر ۳۸ ﴿اللہ کے راستے کیلئے لشکر کو ساز و سامان دینا﴾

حضرت عبدالرحمن بن خباب سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا اور جیشِ عمرہ (غزوہ تبوک میں جانے والے لشکر) پر خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کجاوے اور پلان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں۔ یعنی میں دوگا۔

پھر حضور ﷺ منبر سے ایک سیڑھی نیچے تشریف لائے اور پھر (خرچ کرنے کی) ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کجاوے اور پلان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ (حضرت عثمان کے اتنا زیادہ خرچ کرنے پر بہت خوش ہیں اور خوشی کی وجہ سے) ہاتھ کو ایسے ہلا رہے ہیں جیسے تاج و حیرانی میں انسان ہلایا کرتا ہے۔

اس موقع پر عبدالصمد راوی نے سمجھانے کیلئے اپنا ہاتھ باہر نکال کر ہلا کر دکھایا۔

اور حضور ﷺ فرما رہے ہیں اگر اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کوئی بھی (نفل) عمل نہ کرے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۲۲۱ بحوالہ البدایہ ج ۵ ص ۴)

### قصہ نمبر ۳۹ ﴿مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتادگی کیلئے زمین خریدنا﴾

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کیلئے ناکافی اور مختصر ہو گئی تو مسجد کے قریب ہی ایک قطعہ زمین تھا جس میں اس کا مالک کھجوروں کا ذخیرہ رکھتا تھا۔

آنحضرت ﷺ کا ایما ہوا کہ اس قطعہ کو خرید کر اسے مسجد میں شامل کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو پیش قدمی کر کے ۲۵ یا ۲۰ ہزار درہم میں یہ قطعہ خرید لیا اور آنحضرت ﷺ کو خبر کی آپ نے خوش ہو کر فرمایا تم اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دو۔ (اجرہ لک) اور اس کا ثواب تم کو ملے گا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۰ بحوالہ البدایہ ج ۳ ص ۱۷۷)

### قصہ نمبر ۴۰ ﴿قرضہ معاف کرنا﴾

ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پچاس ہزار کی رقم کے مقروض تھے۔ ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: میرے پاس روپیہ آ گیا ہے آپ اپنی رقم لے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا: ہولک یا ابا محمد معونۃ لک علی رؤتک ابو محمد! یہ رقم میں نے تم کو دے دی۔ اپنی ضرورت پر خرچ کرو

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۰۷)

### قصہ نمبر ۴۱ ﴿بیت رسالت کی خدمت﴾

ایک مرتبہ چار دن تک اہل بیت رسول اللہ ﷺ کو کھانا میسر نہ آیا۔ حضور ﷺ گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا

کھانے کے لئے کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھوں ہم کو مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ (یہ سن کر) خاموش ہو گئے و صوف فرمایا اور مسجد میں نفل پڑھنے لگے۔ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد (بعد از سلام) نماز کی جگہ تبدیل کرتے جاتے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگئے۔ اور اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت نہ دوں۔ پھر یہ خیال کر کے کہ یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک نیکی پہنچانے کا قصد کیا ہو۔ لہذا میں نے اجازت دے دی۔ عثمان نے مجھ سے حضور ﷺ کا حال دریافت کیا میں نے جواب دیا اے صاحبزائے! چار یوم سے اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا۔ (یہ سنتے ہی) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا کہ تف (کلمہ افسوس) ہے دنیا پر پھر کہا اے ام المؤمنین آپ کو مناسب نہ تھا کہ آپ پر اسے حادثات گزریں اور آپ مجھ سے ذکر نہ کریں اور نہ عبدالرحمن بن عوف، نہ ثابت بن قیس جیسے مالداروں سے۔ ذوالنورین یہ کہہ کر واپس لوٹے اور کئی اونٹ، آٹا، گیہوں، کھجوریں اور مسلم بکرا مع سو درہم کے لا کر پیش کیا پھر کہا یہ دیر سے تیار ہوگا میں پکا ہوا کھانا لاتا ہوں۔ چنانچہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا کھائیے اور حضور ﷺ کیلئے بھی رکھ دیجئے پھر ام المؤمنین عائشہ کو قسم دی کہ آئندہ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے دریافت فرمایا عائشہ هل اصبتہم بعدی شیاء (اے عائشہ میرے بعد تم کو کچھ ملا؟) تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا کیا ملا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آٹا، گیہوں، کھجوریں اونٹوں پر لدی ہوئی۔ درہم کی تھیلی۔ ایک عدد مسلم بکرا، روٹی او بہت سا بھنا ہوا گوشت۔ آپ ﷺ نے فرمایا کس نے دیا؟ گزارش کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ اور وہ قسم دلا گئے ہیں کہ آئندہ جب ایسا موقع آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔

حضور ﷺ یہ سن کر بیٹھے نہیں بلکہ مسجد تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا

اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه. اللهم اني قد رضيت

عن عثمان فارض عنه

(اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا آپ بھی راضی ہو جائیں۔)

(تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۳۶۵)

### قصہ نمبر ۲۲ ﴿﴾ ایک ہزار اونٹ بمعہ سامان صدقہ کرنا ﴿﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (مخاطبین سے) فرمایا تم لوگ شام نہ کرنے پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور کر دیں گے۔ تو صبح ہی ایک قاصد نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانا لایا ہے۔ صبح کو غلے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک چادر اوڑھے ہوئے نکلے جس کے دونوں کنارے مونڈھوں پر پڑے ہوئے تھے تاجروں سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تاجروں نے کہا ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانا آپ کا آیا ہے۔ آپ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ فقراء مدینہ کی تنگی رفع ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اندر بلایا۔ جب وہ لوگ اندر گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں غلے کا بڑا ڈھیر رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ میرے (ملک) شام سے آئے غلے پر کس قدر نفع دو گے؟ ان لوگوں نے کہا ”دس کے بارہ“ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا ”دس کے چودہ“ حضرت عثمان نے فرمایا اور زیادہ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ”دس کے پندرہ“ حضرت عثمان نے فرمایا اور زیادہ دو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ تجار مدینہ ہیں (سب موجود ہیں) اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا

کہ تم مجھ کو ایک درہم پر دس درہم نفع میں دو گے؟ انہوں نے کہا ”نہیں“ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے گروہ تجارا! تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے فقراء مدینہ کو تمام غلہ (صدقہ میں) دے دیا.....

(تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۴۶۸)

### قصہ نمبر ۴۳ ﴿جنت کے چشمے کا وعدہ﴾

حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا۔ بنو غفار کے ایک آدمی کا کنواں تھا جس کا نام رومہ تھا۔ وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشک ایک مد (تقریباً ۱۴ چھٹا تک غلے) میں بیچتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کنویں والے سے فرمایا تم میرے ہاتھ یہ کنواں بیچ دو تمہیں اس کے بدلہ میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میرے اور میرے اہل و عیال کیلئے اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس لئے میں نہیں دے سکتا۔

یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے وہ کنواں پچیس ہزار درہم میں خرید لیا۔ پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جیسے آپ نے اس سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تو کیا اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟

حضور ﷺ نے فرمایا ہاں بالکل ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کیلئے صدقہ کر دیا ہے۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۲۳۸ بحوالہ عند الطبرانی کذابی المنتخب ج ۵ ص ۱۱)

### قصہ نمبر ۴۴ ﴿حضور ﷺ کی ذوالنورین کیلئے دعائیں﴾

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لوگوں کو (سخت بھوک کی) مشقت اٹھانی پڑی (جس کی وجہ سے)

میں نے مسلمانوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار اور منافقوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔

جب حضور ﷺ نے بھی یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کیلئے رزق بھیج دیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول ﷺ کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چودہ اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے نو اونٹنیاں حضور ﷺ کی خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور ﷺ نے یہ اونٹنیاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟

عرض کیا گیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہدیہ میں بھیجی ہیں۔ اس پر حضور ﷺ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہونے لگے اور منافقوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیلئے ایسی زبردست دعا کی کہ میں نے حضور ﷺ کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کیلئے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ! عثمان کو (یہ اور یہ) عطا فرما۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ (ایسا اور ایسا) معاملہ فرما۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۲۳۰، بحوالہ المستحب ج ۵ ص ۱۲)

### قصہ نمبر ۲۵ ﴿سادگی اپنوں کی دیکھ﴾

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان تھے۔ (مسجد میں کنکریاں پچھی ہوئی تھیں) اور لوگ

(ان کی اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر) کہہ رہے تھے یہ امیر المؤمنین ہیں؟  
یہ امیر المؤمنین ہیں؟

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۶۷ بحوالہ ابو نعیم فی الحلیۃ ج ۱ ص ۶۰)

## قصہ نمبر ۲۶ ﴿ صحیح مسئلہ بتانے کا اہتمام ﴾

حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی سو دینار اللہ کے راستہ میں خرچ کئے جائیں۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔۔۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ اللہ کے راستہ میں سو دینار خرچ کئے جائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح پوری کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھتے اور وہ یہ جواب نہ دیتا جو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا (کہ تم نے اس جاہل سے کیوں پوچھا؟) اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا حکم دیا تو ہم سب اسلام لے آئے اور (اللہ کا شکر ہے کہ) ہم سب مسلمان ہیں۔

پھر اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی چنانچہ ہم اہل مدینہ مہاجر ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو (اس زمانے میں) تم نے جہاد کیا تو تم اہل شام مجاہد ہو۔ تم یہ سو دینار اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر اور آس پاس کے ضرورت مندوں پر خرچ کر لو۔ کیونکہ اگر تم ایک درہم لے کر گھر سے نکلو اور پھر اس کا گوشت خریدو اور پھر اسے تم بھی کھا لو اور تمہارے گھر والے بھی کھالیں تو تمہارے لئے سات سو درہم کا ثواب لکھا جائے گا (ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اسراف پر پکڑ ہوگی).....

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۶۷ بحوالہ ابن عساکر ج ۱ ص ۵۳)

## قصہ نمبر ۲۷ ﴿ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادگی و تعمیر کیلئے مشورہ ﴾

حضرت مطلب بن عبد اللہ بن حطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ۲۲ ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان سے مسجد بڑھانے کی بات کی اور یہ شکایت کی کہ جمعہ کے دن جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر میدان میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضور ﷺ کے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق تھا کہ پرانی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نظر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان فرمائی پھر فرمایا اے لوگوں! میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کیلئے مسجد بنائے گا اللہ اس کیلئے جنت میں محل بنائیں گے۔ اور یہ کام مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت بھی کر چکی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا بھی تھا اور اسے نئے سرے سے بنایا بھی تھا۔ اور میں اس بارے میں حضور ﷺ کے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کر چکا ہوں۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع بھی کر دی جائے تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کیلئے دعا بھی کی۔

اگلے دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کام کرنے والوں کو بلایا (اور انہیں کام میں لگایا) اور خود بھی اس کام میں لگے۔ حالانکہ حضرت عثمان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ بطن نخل میں چھنا ہوا چونا تیار کیا جائے۔ حضرت عثمان نے ربیع الاول ۲۹ ہجری میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا جو محرم ۳۰ ہجری میں ختم ہوا۔ یوں دس ماہ میں کام پورا ہوا۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۱۲۲ بحوالہ دفاء الوفاء ج ۱ ص ۳۵۵)



## قصہ نمبر ۲۸ ﴿ صفیں سیدھی کرانے کا اہتمام ﴾

حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ میرے لئے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں کہ اتنے میں نماز کی اقامت ہوگئی میں ان سے بات کرتا رہا اور وہ اپنی جوتیوں سے کنکریاں برابر کرتے رہے (عربوں میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھاتے تھے) یہاں تک کہ وہ لوگ آگئے جن کے ذمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صفیں سیدھی کرنا لگایا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا کہ صفیں سیدھی ہو گئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا تم بھی صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۱۳۸ بحوالہ الکفر ج ۳ ص ۲۵۵)

## قصہ نمبر ۲۹ ﴿ رات گئی بات گئی ﴾

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آپس میں کسی مسئلہ میں اتنا جھگڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ اب شاید یہ دونوں کبھی آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ دونوں جب اس مجلس سے اٹھتے تو ایسے لگتا کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۲۲۵ بحوالہ الکفر ج ۵ ص ۲۲۱)

## قصہ نمبر ۵۰ ﴿ حدیث بیان کرنے میں احتیاط ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور ﷺ کی طرف سے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ ﷺ کے صحابہ میں (آپ ﷺ کی حدیثوں کا) سے زیادہ حافظ نہیں ہوں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا

ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنالے۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۲۷۳ بحوالہ بیہقی ج ۱ ص ۱۴۳)

### قصہ نمبر ۵۱ ﴿ تلاوت قرآن کا شوق ﴾

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم اپنے رب کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا آئے جس میں دیکھ کر قرآن نہ پڑھوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ کر اتنا زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ان کے انتقال سے پہلے ہی ان کا قرآن پھٹ گیا تھا۔ (کثرت استعمال کی وجہ سے)

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۳۲۱ بحوالہ الاسماء والصفات ص ۱۸۲)

### قصہ نمبر ۵۲ ﴿ دست عثمان رضی اللہ عنہ میں کنکر یوں کی تسبیح ﴾

حضرت سوید بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات کہتا ہوں۔ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے۔

میں حضور ﷺ کی تنہائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ اور اس تنہائی میں حضور ﷺ سے سیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضور ﷺ باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دیئے۔ میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے ہولیا۔ ایک جگہ جا کر آپ ﷺ بیٹھ گئے۔ میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوذر کیوں آئے ہو؟

میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ﷺ کی محبت کی وجہ سے۔۔۔۔۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے عثمان! کیسے آتا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے۔

پھر حضور ﷺ نے سات یا نو کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کی بھننا ہٹ سنی۔ پھر حضور ﷺ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔۔۔۔۔ پھر حضور ﷺ نے انہیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بھننا ہٹ سنی۔ پھر حضور ﷺ نے انہیں زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۶۵۷ بحوالہ البدایہ ج ۶ ص ۱۳۲)

### قصہ نمبر ۵۳ ﴿دامادِ رسول ﷺ کو تکلیف دینے کا انجام﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر بیان فرما رہے تھے کہ حضرت جہاہ غفاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لاشی لی اور اس زور سے ان کے گھٹنے پر ماری کہ گھٹنا پھٹ گیا اور لاشی بھی ٹوٹ گئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جہاہ کے ہاتھ پر جسم کو کھا جانے والی (مہلک) بیماری لگا دی جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۷ بحوالہ ابویعیم فی الدلائل ص ۲۱۱)

### قصہ نمبر ۵۴ ﴿اتباع سنت کا اہتمام﴾

ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ مزدلفہ میں فرودکش تھے، فجر کی نماز کے وقت روشنی کافی پھیل گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر امیر المؤمنین اس وقت منیٰ کے لیے روانہ ہو جائیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنت ہی اس سرعت سے چل پڑے کہ راوی کا بیان ہے۔

﴿فما ادرى ا قوله كان اسرع ام دفع عثمان فلم  
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر﴾  
”مجھے معلوم نہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پہلے تھا یا  
حضرت عثمان رضی اللہ کی یلخت رواگی.....“

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۵ بحوالہ بخاری کتاب الحج باب متی۔ صلی الفجر حج)

### قصہ نمبر ۵۵ ﴿فراست عثمان رضی اللہ عنہ پر صدیق کی تعریف﴾

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے  
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے  
استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس سلسلہ  
میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام  
لکھانے سے قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  
نے اپنی عقل و فراست سے سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ کا نام لکھ دیا۔ حضرت  
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ پڑھو کیا لکھا؟ انہوں نے سنا نا شروع کیا اور جب  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو حضرت ابو بکر بے اختیار ”اللہ اکبر“ پکارا اٹھے، اور حضرت  
عثمان رضی اللہ عنہ کی اس فہم و فراست کی بہت تعریف و توصیف کی۔

(خلفائے راشدین ص ۱۸۴ بحوالہ ابن سعد ج ۳)

### قصہ نمبر ۵۶ ﴿عام مسلمانوں کی رائے کا خیال رکھنا﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ  
افریقہ کی فتح کے صلہ میں مال غنیمت کا پانچواں حصہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس لئے (فتح  
کے بعد) حضرت عبد اللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اس وعدہ کے مطابق اپنا حصہ لے لیا  
لیکن عام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس فیاضی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے اس رقم کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ میں نے بے شک وعدہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے (اس لئے مجبوری ہے)

(خلفائے راشدین ص ۱۸۸ بحوالہ طبری ص ۸۱۵)

### قصہ نمبر ۵۷ ﴿صلہء رحمی کے اہتمام پر طعن و تشنیع برداشت کرنا﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ تھے۔ مزاج میں اتنی پیش بینی نہ تھی۔ نیز اپنے اختیارات سے اپنے قرابت مندوں کو فائدہ پہنچانا صلہء رحم جانتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی اعلانیہ شکایتیں کیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ قریش کو تمام عرب پر ترجیح نہیں دیتے تھے اور کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کچی ہوتی تو تمام بنی امیہ کو اس میں بھر دیتا۔

(خلفائے راشدین ص ۲۰۳ بحوالہ ابن سعد ج ۳)

### قصہ نمبر ۵۸ ﴿انصاف کی انتہاء﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ) ان دونوں بزرگوں کی طرف سے کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لئے انہوں نے کچھ دنوں کے لے وظیفہ روک دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو غایت انصاف سے کام لے کر جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ باقی تھا جس کی مقدار تھیننا بیس پچیس ہزار تھی ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا (امام وقت کو سیاسی وجوہ کی بنا پر اس قسم کے اختیارات حاصل ہیں)

(خلفائے راشدین ص ۲۰۷ بحوالہ ابن سعد ج ۳)

## قصہ نمبر ۵۹ ﴿ پہلا مقدمہ اور حیران کن فیصلہ ﴾

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابولولو مجوسی نے شہید کر دیا تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غضب ناک ہو کر قاتل کی لڑکی اور ہرمزان کو جو ایک نو مسلم ایرانی تھا قتل کر دیا۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سازش میں شریک تھے۔

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب عنانِ خلافت ہاتھ میں تھامی تو سب سے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے متعلق رائے طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے قصاص میں قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ بعض مہاجرین نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کل قتل (شہید) ہوئے اور ان کا لڑکا آج مارا جائے گا؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین! اگر آپ عبید اللہ کو معاف کر دیں تو امید ہے کہ خدا آپ سے باز پرس نہ کرے گا۔ غرض اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم عبید اللہ کے قتل کر دینے کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ ہرمزان کا کوئی وارث نہیں ہے اس لئے بحیثیت امیر المؤمنین میں اس کا ولی ہوں اور قتل کے بجائے دیت پر راضی ہوں۔ اس کے بعد خود اپنے ذاتی مال سے دیت کی رقم دے دی۔

(خلفائے راشدین ص ۲۱۰ بحوالہ ابن اثیر ج ۳ ص ۵۸)

## قصہ نمبر ۶۰ ﴿ منیٰ میں چار رکعت پڑھنے کی وجہ بیان کرنا ﴾

اتباع سنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصد حیات تھا۔ منیٰ میں دو کے بجائے چار رکعت نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک نص شرعی پر مبنی تھا۔ چنانچہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بدعت پر محمول کر کے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مجمع میں چار رکعت نماز پڑھنے کی حسب ذیل وجہ بیان کی۔

صاحبو! جب میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کر لی اور میں نے رسول اللہ

ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے اس کو مقیم کی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔

(خلفائے راشدین ص ۲۱۱ بحوالہ مسند احمد ج ۱ ص ۶۲)

### قصہ نمبر ۶۱ ﴿اتباعِ سنت میں مسکرانا﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے متبسم ہوئے (مسکرائے) لوگوں نے اس بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی۔ فرمایا میں نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کو اسی طرح وضو کر کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۰ بحوالہ طبری ص ۲۸۰۴)

### قصہ نمبر ۶۲ ﴿خلافِ سنت عمل پر ناراضگی﴾

حج کے موقعہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے۔ طواف میں انہوں نے رکن یماق کا بھی بوسہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کا استلام کرانا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں! کیا آپ ﷺ کو اس کا استلام کرتے تم نے دیکھا؟ کہا نہیں! فرمایا پھر کیا رسول اللہ ﷺ کی اقتداء مناسب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا بے شک۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۰ بحوالہ مسند احمد ص ۷۰ ج ۱)

### قصہ نمبر ۶۳ ﴿معزولی اور مکان کی تلافی کرنا﴾

حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بحرین و عمان کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اس عہدہ پر باقی رکھا۔ لیکن ۲۹ ہجری میں انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ میں قیام پزیر

ہوئے۔ علاوہ ازیں عثمان بن ابی العاص کا مکان مدینہ میں مسجد نبوی سے متصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی میں توسیع کا ارادہ کیا تو عثمان بن ابی العاص کا مکان مسجد میں ضم کر دیا۔ اور اب معزولی اور مکان دونوں کی تلافی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ بصرہ میں ایک بڑی جائداد و آراضی جو مورخین کے اندازے کے مطابق دس ہزار جریب (ایک جریب کم و بیش ڈیڑھ سو مربع گز کے برابر ہوتا ہے) تھی۔ عثمان بن ابی العاص کو وہ (ہدیہ) کر دی اور ان کے لئے ایک پروانہ لکھ دیا۔ اس پروانہ میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے تحریر کیا گیا تھا۔

یہ اراضی اور جائداد میں نے تم کو اس مکان کے عوض دی ہے جو مدینہ میں توسیع مسجد نبوی ﷺ کے لئے میں نے تم سے لیا تھا اور جس کو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لئے خریدا تھا۔ اس جائداد اور اراضی کی جتنی قیمت تمہارے مکان کی قیمت سے زیادہ ہو اس کو میری طرف سے اپنی معزولی کے مکافات سمجھو۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۷۶ بحوالہ معجم البلدان ج ۵ ص ۲۶۶)

### قصہ نمبر ۶۴ ﴿﴾ باندی سے بھی پردے کا اہتمام ﴿﴾

بنا نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کی باندی تھی اس کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل سے فراغت کے بعد جب میں ان کے کپڑے لیکر حاضر ہوتی تھی تو مجھ سے فرماتے میرے جسم کی طرف مت دیکھنا۔ یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۷۷ بحوالہ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۴۱)

### قصہ نمبر ۶۵ ﴿﴾ دقیقہ سخی ﴿﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کوئی منظر یا کوئی خاص چیز دیکھتے تو اس سے حکیمانہ نکتہ پیدا فرماتے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ منبر مسجد پر



مسلمانوں کو افریقیہ (بلاد مغرب) کی فتح کی خبر سنانے کیلئے بیٹھے تو چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود اس معرکہ میں شریک تھے اور حضرت عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح نے آپ کو ہی یہ خوش خبری سنانے کیلئے مدینہ بھیجا تھا۔ اور وہ اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ اس لئے امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا تم کھڑے ہو اور مژدہء فتح سناؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیل حکم کی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے اور اپنے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صورت و شکل میں بہت مشابہ تھے۔ اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی تو مجمع سے خطاب کر کے فرمایا۔ لوگوں! تم ان عورتوں سے نکاح کیا کرو جو اپنے والدوں اور بھائیوں پر ہوا کریں۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی بچہ کو عبداللہ بن زبیر سے زیادہ ان کے ساتھ مشابہ نہیں پاتا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۷۸ بحوالہ البیان والتبیین ج ۱ ص ۲۱۰)

### قصہ نمبر ۶۶ ﴿اہلیہ کیلئے لباس فاخرہ خریدنا﴾

ابن سعد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام طور پر اپنی بیویوں کو عمدہ اور خوبصورت لباس پہناتے تھے (جن کو وسعت ہوتی تھی) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک زیشمیں چادر دو سو درہم میں خریدی اور فرمایا: یہ ناکلمہ کیلئے ہے۔ وہ اسے اوڑھیں گی تو میں خوش ہوں گا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۷۴ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۴۰)

### قصہ نمبر ۶۷ ﴿مدوین قرآن کی سعادت﴾

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں (جس میں شام اور عراق کی فوجیں ایک ساتھ تھیں) شریک تھے۔ وہاں انہوں نے اختلاف قرأت کا ہولناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر

عرض کیا: امیر المؤمنین! خدا کیلئے امت کی خبر لیجئے۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق ان کے اختلافات ایسے ہی شدید ہو جائیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے اتنا اہم اور عظیم الشان کام امیر المؤمنین خود اپنی رائے سے انجام دینے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے صحابہ کی مجلس شوریٰ طلب کی۔ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے۔ جب سب ارباب شوریٰ نے متفقہ طور پر اس کی تصویب اور تائید کر دی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتب ہوا تھا۔ اور اب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ملک میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ ام المؤمنین سے عاریہ لیا۔ اور ایک مجلس مقرر فرمائی جو ارکان ذیل پر مشتمل تھی۔

(۱) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (۲) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ (۳) حضرت سعد بن العاص رضی اللہ عنہ (۴) حضرت عبدالرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ مجلس کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مصحف کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کا ایک نہایت مستند مجموعہ تیار کریں۔ اس مجلس میں صرف حضرت زید بن ثابت انصاری تھے جبکہ باقی تینوں ارکان ناموران قریش تھے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجلس کو ہدایت کی کہ چونکہ قرآن کا نزول لسان قریش پر ہوا۔ اس لئے تینوں ارکان کو جہاں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو وہاں وہ اپنی قرأت کو ترجیح دیں۔ جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مصحف واپس کر دیا گیا۔ اور یہ مجموعہ جس کا نام مصحف عثمانی ہے اس کی متعدد نقلیں تیار کرا کے انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا کہ بس اس کو مستند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرأت اور کتابت کی جائے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۳۰۹ بحوالہ بخاری ج ۲)

## قصہ نمبر ۶۸ ﴿اتباع سنت کا اہتمام جگہ اور فعل میں بھی﴾

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ایک دروازہ پر بیٹھ کر بکری کا پٹھا منگوا یا۔ اسے تناول فرمایا اور تجدد وضو کے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ فراغت

کے بعد ارشاد ہوا (لوگوں کے تعجب سے دیکھنے پر کہ) رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک مرتبہ اسی جگہ بکری کا پٹھا نوش جان کیا تھا اور پھر وضو کئے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تھے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۵ بحوالہ مسند احمد ج ۱ ص ۶۲)

### قصہ نمبر ۶۹ ﴿حق دار ہونے کے باوجود اختیار دینا﴾

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے زمین خریدی۔ مالک بہت دنوں تک قیمت لینے نہیں آیا۔ ایک روز وہ کہیں مل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم اپنی زمین کی قیمت لینے نہیں آئے؟ تو اس شخص نے کہا مجھ کو زمین کی فروختگی میں دھوکا ہوا ہے۔ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ معاملہ فروختگی اگرچہ ختم ہو چکا تھا۔ اور اب بیچنے والے کو نیچگی ہوئی زمین کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔

لیکن بایں ہمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم کو اختیار ہے۔ اپنی زمین واپس لے لو یا اس کی قیمت لو۔ اس کے بعد یہ حدیث پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو صلح پسند اور نرم خو ہوگا خواہ اس کی حیثیت خریدنے کی ہو یا بیچنے والے کی، فریادرس کی ہو یا فریاد کرنے والے کی۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۷ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۲۱۶)

### قصہ نمبر ۷۰ ﴿متاخرین پر احسان کی ایک صورت﴾

نماز جمعہ کے خطبہ میں آنحضرت ﷺ منبر کی جس سیڑھی پر بیٹھے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ازارہ عنایت ادب و احترام اس سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر ہی بیٹھنے لگے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد آیا تو آپ ایک اور سیڑھی سے نیچے اتر آئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کر کے کہ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا پھر اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس پر آنحضرت ﷺ تشریف رکھتے تھے۔ (غور سے

دیکھئے تو بعد والوں پر احسان بھی ہے اور اس پر حضور ﷺ کے ساتھ عشق و محبت بیکراں اور جذبہ اتباع سنت کو بھی دخل ہے۔)

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۹۳ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۱۴۸)

### قصہ نمبر ۱۷ ﴿ایک رکعت میں قرآن پڑھنا﴾

عبدالرحمن بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے (غالباً حج کے موقع پر) مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی اور وہ اتنی دراز کر دی کہ یہ خیال ہوا اب اس میں مجھ سے کون سبقت لے جائے گا۔ اتنے میں اچانک ایک شخص آیا۔ اس نے میرے ٹھونگا مارا تو میں نے پروا نہیں کی۔ پھر جب اس نے دوبارہ ایسا کیا اور اب میں نے دیکھا تو یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں فرط ادب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے تو آپ نے ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھ ڈالا اور واپس چلے گئے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۲ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۵۳)

### قصہ نمبر ۱۸ ﴿ہندوستان پر لشکر کشی کا ارادہ﴾

چونکہ فتوحات فاروقی کا قدم ہندوستان کی سرحد تک پہنچ چکا تھا۔ اس بناء پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عبداللہ بن عامر کو عراق کا گورنر بنایا تو عبداللہ بن عامر کو حکم بھیجا کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف کسی ایسے شخص کو روانہ کرے جو اس ملک کے حالات سے باخبر ہو۔ اور جب وہ واپس آئے تو اسے بارگاہ خلافت بھیج دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق عبداللہ بن عامر نے حکیم بن جبلة العبدي کو ہندوستان بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ یہاں پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے حالات دریافت کئے۔

حکیم بن جبلة العبدي نے کہا: امیر المؤمنین! میں نے ہندوستان کے شہروں کو

خوب کھگالا اور ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا تو بیان کرو۔ انہوں نے کہا۔

ماؤھاوشل، وتسر هادقل، ولصهابطل، ان قل

الجيش ضاعوا وان كثروا جاعوا

ترجمہ اس ملک میں پانی کم ہے۔ اس کے پھل نکلے ہیں۔ یہاں کے چور دلیر ہیں۔ اگر ہمارا لشکر تھوڑا ہو تو ضائع ہو جائے گا اور بڑا ہو تو بھوکوں مر جائے گا (یہ سارا بیان اسباب کے درجہ میں تھا)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم خبر دے رہے ہو یا جمع بندی کر رہے ہو حکیم نے کہا میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ہندوستان پر لشکر کشی کا ارادہ فسخ کر دیا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۲۳ بحوالہ فتوح البلدان بلاذری باب فتوح السند)

### قصہ نمبر ۷۷ ﴿سمندری سفر پر جانے والوں کو مشورہ﴾

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ سمندر (بحر روم) میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام روڈس ہے اس کو فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجلس شوریٰ سے رائے طلب کی۔ تو ان حضرات نے فرمایا۔ امیر المؤمنین! جزیرہ قبرص کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے اونچے کر دیئے ہیں۔ اور ان کو بحری جنگ کرنے میں کوئی تامل نہیں۔ اس لئے ہماری رائے ہے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرمادیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا

انسی قد اذنت لك فيما سألت فاتق الله ولا تصيح

الحزم وان خوفت من البحر شياء فلا تر كبنه فان

هوله عظيم.

ترجمہ: جس چیز کی تم نے اجازت مانگی تھی میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اب تم اللہ سے ڈرو، دورانہدیشی کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اور اگر تم کو سمندر کا ڈر ذرا سا بھی ہو تو ہرگز اس پر سوار مت ہونا۔ کیونکہ سمندر کا ہول بہت ہوتا ہے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۰۷ بحوالہ کتاب الفتوح ج ۲ ص ۱۲۷)

### قصہ نمبر ۴۷ ﴿صاحب العیال کیلئے وظیفہ مقرر کرنا﴾

ابو اسحاق کا بیان ہے کہ ان کے دادا کا گزر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا: آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر ہم نے تمہارے لئے اور تمہارے اہل و عیال کیلئے فی کس سودرہم کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۳۸ بحوالہ فتوح البلدان ص ۴۴۵)

### قصہ نمبر ۴۸ ﴿خیانت پر داماد کو معزول کرنا﴾

حزب بن الحکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو محتسب مقرر کیا تھا۔ یعنی اس کا کام یہ تھا کہ بازار میں اشیائے خرید و فروخت ان کی قیمتوں اور دکان داروں کے باٹوں، پیمانوں اور سکوں کی نگرانی رکھیں تاکہ بائع (بیچنے والے) اور مشتری (خریدار) کسی کو شکایت کا موقع نہ ہو۔

لیکن اس رشتہ داری اور قرابت کے باوجود جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا کہ حزب بن الحکم اپنے فرائض منصبی ایمان داری سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور اپنے عہدہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بازار کی بعض اشیاء اپنے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فوراً معزول کر دیا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۳۵ بحوالہ تاریخ الخلفاء ج ۲ ص ۲۶۸)

## قصہ نمبر ۷۶ ﴿اجرائے حد میں احتیاط﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام مجن کا بیان ہے کہ ایک عورت پھٹے پٹے پرانے کپڑوں میں آئی اور بولی ”مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا: مجن! اس عورت کو نکال دو، میں نے تعمیل کی۔ لیکن یہ عورت واپس آگئی اور پھر اسی بات کا اعادہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حسب سابق فرمایا: مجن اسے نکال دو۔ میں نے تعمیل کی۔ لیکن عورت پھر لوٹ آئی اور اسی بات کا تکرار کیا۔

اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افسوس! مجن میں اس عورت کو زبوں حال دیکھتا ہوں۔ اور یہ زبوں حالی ایسی بری بلا ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لئے تم اس عورت کو لے جاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ اور اسے کپڑے پہناؤ۔ اس کے بعد ایک گدھے پر بھجور، آنا اور کشش لاد کر کوئی قافلہ جاتا ہو تو عورت کو گدھے کے ساتھ اس قافلے کے ہمراہ کر دو۔ مجن کا بیان ہے۔ میں نے اثنائے راہ میں عورت سے پوچھا کیا تم اب بھی اقرار کرو گی؟ بولی نہیں میں تو امیر المؤمنین کے سامنے اقرار اپنی زبوں حالی کی وجہ سے کر رہی تھی۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۳۳ بحوالہ کنز العمال ج ۱۵ ص ۲۷)

## قصہ نمبر ۷۷ ﴿عوام کو قانون سے کھیلنے پر تنبیہ﴾

ولید بن عقبہ کی گورنری کے زمانہ میں ایک شعبدہ باز یا جادو گر تھا۔ جنڈب نامی ایک شخص نے جادو گر کو زود کوب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فوراً ولید بن عقبہ کو لکھا ”جنڈب سے اس بات کی قسم لے لو کہ اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ تم خود جادو گر کو مزادینے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اگر جنڈب یہ حلف اٹھالے تو اسے تعزیر کر کے چھوڑ دو اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ محض ظن و تخمین پر عمل نہ کریں اور قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۳۹ بحوالہ طبری ج ۳ ص ۲۷۵)

## ﴿حالات حصار کے مختلف واقعات﴾

قصہ نمبر ۷۸ ﴿حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے ہوئے عہد پر جمننا﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میرے کسی صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ آگئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا ایک طرف کو ہٹ جاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کان میں بات کرنی شروع کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا۔ جب یوم الدار آیا (جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور ہو گئے تو ہم نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ (باغیوں سے) جنگ نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں۔ حضور ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا میں اس عہد پر پکارا ہوں گا جمار ہوں گا۔

(حیۃ الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۳ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۱۸۱)

قصہ نمبر ۷۹ ﴿مسلمان کا خون صرف تین باتوں﴾

کی وجہ سے حلال ہے ﴿

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ گھر میں تھا۔ گھر میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جب ہم اس میں داخل ہوتے تو وہاں سے بلاط مقام پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمام باتیں سن لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے اس میں گئے جب وہاں سے باہر آئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا وہ لوگ تو اب مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔



ہم نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے یا تو آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے یا شادی کے بعد زنا کرے۔ یا ناحق کسی انسان کو قتل کر دے (میں نے تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے) اللہ کی قسم! نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا ہے۔ اور نہ اسلام لانے کے بعد۔ اور جب سے اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی ہے کبھی بھی میرے دل میں اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور نہ ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو اب یہ لوگ مجھے کس وجہ قتل کرنا چاہتے ہیں؟

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۲ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۱۷۹)

### قصہ نمبر ۸۰ ﴿باغیوں کو وعظ کرنا﴾

حضرت ابولیلیٰ کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جن دنوں عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے میں بھی ان دنوں وہاں ہی تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے در پچھ سے باہر جھانک کر (باغیوں سے) فرمایا: اے لوگوں! مجھے قتل نہ کرو (مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہو تو) مجھ سے توبہ کرا لو۔ اللہ کی قسم! اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر کبھی بھی تم اکٹھے نہ نماز پڑھ سکو گے، اور نہ دشمن سے جہاد کر سکو گے، اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا تمہارا حال بھی ایسا ہو جائے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی

﴿يا قوم لا يجر منكم شقاقى ان يصيكم مثل ما

اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم

لوط منكم ببعد﴾ (سورۃ ہود آیت ۸۹)

ترجمہ: اے میری قوم! میری ضد تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں اور قوم لوط تو (ابھی) تم سے (بہت) دور (زمانہ میں) نہیں ہوئی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ اپنا ہاتھ (ان باغیوں سے) روک کر رکھیں۔ اس سے آپ کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی (قیامت کے دن)۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۵ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۴۹)

### قصہ نمبر ۸۱ ﴿ذوالنورین کے بے نظیر نظریات﴾

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا آپ تمام لوگوں کے امام ہیں۔ اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تین تجویزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے آپ جو کسی چاہیں اختیار فرمائیں یا تو آپ گھر سے باہر آکر ان باغیوں سے جنگ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے۔ اور پھر آپ حق پر ہیں اور یہ باغی لوگ باطل پر ہیں یا آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کیلئے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھول لیں کیونکہ پرانے دروازے پر تو یہ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نئے دروازے سے (چپکے سے) باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں۔ کیونکہ یہ باغی لوگ مکہ میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھر آپ ملک شام چلے جائیں وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی اور) فرمایا میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور

ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی امت میں سب سے پہلے (مسلمانوں کا) خون بہانے والا میں بنوں باقی رہی تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ باغی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لئے اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی بنوں۔ اور تیسری تجویز کہ میں ملکِ شام چلا جاؤں وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں سو میں اپنے دارِ ہجرت (مدینہ منورہ) اور حضور ﷺ کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۶ بحوالہ البدایہ ج ۷ ص ۲۱۱)

### قصہ نمبر ۸۲ ﴿ایک قتل ساری انسانیت کا قتل﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! اب تو آپ کے لئے ان باغیوں سے جنگ کرنا بالکل حلال ہو چکا ہے (لہذا آپ ان سے جنگ کریں اور انہیں بھگا دیں) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ تم تمام لوگوں کو قتل کر دو اور مجھے بھی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم ایک آدمی کو قتل کرو گے تو گویا کہ تم نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا (جیسے کہ سورۃ مائدہ آیت ۳۲ میں اس کا تذکرہ ہے) یہ سن کر میں واپس آ گیا اور جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۶ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۴۸)

### قصہ نمبر ۸۳ ﴿جنگ کیلئے اپنی ذات کو وجہ نہ بننے دینا﴾

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کے ساتھ اس گھر میں ایسی جماعت ہے جو (اپنی صفات کے اعتبار سے) اللہ کی مدد کی ہر طرح حق دار ہے۔ ان سے کم تعداد پر اللہ

تعالیٰ مدد فرمادیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں ان سے جنگ کروں۔  
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے واسطے دے کر کہتا ہوں کہ کوئی  
آدمی میری وجہ سے نہ اپنا خون بہائے اور نہ کسی اور کا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۶ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۳۹)

### قصہ نمبر ۸۴ ﴿مخالفین کو اللہ کے حوالے کر دینا﴾

حضرت عبداللہ بن ساعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن عاص رضی  
اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ  
کب تک ہمارے ہاتھوں کو روک رکھیں گے؟ ہمیں تو یہ باغی کھا گئے کوئی ہم پر تیر چلاتا  
ہے کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے کسی نے تلوار سونتی ہوئی ہے۔ لہذا آپ ہمیں (ان سے لڑنے  
کا) حکم دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! میرا تو ان سے لڑنے کا بالکل  
ارادہ نہیں۔ اگر میں ان سے جنگ کروں تو میں یقیناً ان سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ لیکن میں  
انہیں بھی اور انہیں میرے خلاف جمع کر کے لانے والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔  
کیونکہ ہم سب کو اپنے رب کے پاس جمع ہونا ہے۔ تمہیں ان سے جنگ کرنے کا حکم میں  
کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۵۰۷ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۲۳)

### قصہ نمبر ۸۵ ﴿خون نہ بہانے کی قسم دینا﴾

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  
کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا اے اللہ کے بندو!  
راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آرہے  
ہیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی  
ہے۔ ان سے آگے حضرات مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن

رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا السلام علیک یا امیر المؤمنین! حضور ﷺ کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ ﷺ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا اور اللہ کی قسم! مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کا ایک سیگی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دوبارہ عرض کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۱۷۰ بحوالہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ ج ۲ ص ۱۲۸)

## قصہ نمبر ۸۶ ﴿﴾ مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ

### رہنے کی وصیت ﴿﴾

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت مانگی انہوں نے حج کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر یہ باغی غالب آگئے تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ دینا۔ انہوں نے پوچھا اگر یہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنا لیں تو پھر کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا وہ جماعت جن کی بھی ہو۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۱۷۱ بحوالہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ ج ۲ ص ۱۶۹)

## قصہ نمبر ۸۷ ﴿صبر و برداشت کی لازوال مثال﴾

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے) باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سامنے سے آتے ہوئے ملے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے کہا اے امیر المؤمنین! آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھی اور ہم بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر آ گئے تو ہمیں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آتے ہوئے ملے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں؟

چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا۔ پھر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری فرمانبرداری کی۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا اور میں ان کا اپنے اوپر دوہرا حق سمجھتا تھا۔ ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے اور اب میں آپ کا پوری طرح فرمانبردار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں (میں اسے انشاء اللہ پورا کروں گا) اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے آل عمر! اللہ تعالیٰ تمہیں دگنی جزائے خیر عطا فرمائے مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

## قصہ نمبر ۸۸ ﴿اپنی جان سے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کا فکر﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو (باغیوں کی طرف سے) تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کہا اے امیر المؤمنین! چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا ہے اس لئے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہو گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک دو۔ وہ لوگ تو میری جان لینا چاہتے ہیں اس لئے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر) میں نے اپنی تلوار پھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے؟۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۱۷۲ بحوالہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ ج ۲ ص ۱۶۹)

## قصہ نمبر ۸۹ ﴿خواب میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات﴾

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے میں سلام کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اندر گیا تو آپ نے فرمایا خوش آمد بد ہو میرے بھائی کو، میں نے آج رات اس کھڑکی میں حضور ﷺ کو دیکھا (حالت خواب میں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان! ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیسا سا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر حضور ﷺ نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس میں سے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اگر تم چاہو (تو اللہ کی طرف سے) تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان دونوں

باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔  
(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۴۳ بحوالہ البدلیہ ج ۷ ص ۱۸۲)

### قصہ نمبر ۹۰ ﴿اپنی بات سے فتنہ کا اندیشہ﴾

حضرت کثیر بن صلت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ سوئے اور اٹھنے کے بعد فرمایا اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمان فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں بتادیں ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس کا دوسرے لوگوں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تم اس جمعہ ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے ابن سعد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی جمعہ کا دن تھا۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۴۶ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ص ۷۵)

### قصہ نمبر ۹۱ ﴿حالت حصار میں بھی تلاوت قرآن کا اہتمام﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیس غلام آزاد کئے اور شلوار منگوا کر اسے پہنا اور اسی طرح باندھ لیا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ جاہلیت میں شلوار پہنی تھی اور نہ اسلام میں اور فرمایا گزشتہ رات میں نے حضور ﷺ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمایا صبر کرو۔ کیونکہ تم کل رات ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے۔ پھر قرآن شریف منگوا لیا اور کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو قرآن اس طرح ان کے سامنے تھا۔

(حیاء الصحابہ ج ۳ ص ۴۶ بحوالہ بیہمی ج ۷ ص ۲۳۲)

### قصہ نمبر ۹۲ ﴿مدینۃ الرسول ﷺ کا ادب و عشق﴾

جب مدینہ منورہ کے حالات سخت تشویش انگیز ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ



نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ملک شام تشریف لے چلیں۔ اور اگر یہ گوارا نہ ہو تو انہیں اجازت دیں کہ قصر خلافت کی حفاظت کے لے فوج کا ایک دستہ بھیج دیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صورتوں کو یہ کہہ کر نامنظور کر دیا تھا۔ کہ میں نہ کسی قیمت پر رسول اللہ ﷺ کا قرب چھوڑ سکتا ہوں اور نہ یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ مدینہ میں فوج اس درجہ کثیر آجائے کہ اس کی وجہ سے شہر رسول ﷺ کے رہنے والوں کو اشیائے خورد و نوش کی تنگی محسوس ہو۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۸۴)

### قصہ نمبر ۹۳ ﴿حج کیلئے نائب مقرر کرنا﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب سے خلیفہ ہوئے تھے بحیثیت امیر المؤمنین کے ہر سال حج کو تشریف لے جاتے۔ اس موقع پر تمام عمال کو بھی بلا تے، ہر ایک سے اس کے صوبہ کے حالات دریافت کرتے۔ عوام سے ان کے دکھ درد معلوم کرتے اور اس طرح مملکت اسلامیہ کے تمام احوال و ظروف سے باخبر رہتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فرض شناسی کا یہ عالم تھا کہ اس مرتبہ حج کو نہیں جا سکتے تھے (حالت حصار میں) تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا: اس مرتبہ تم میری طرف سے حج کو چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا ان باغیوں سے جہاد کرنا میرے نزدیک حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور قسم دی تو آخر راضی ہوئے اور حج کو گئے۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۲۵۱ بحوالہ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۷۴)

### قصہ نمبر ۹۴ ﴿خادموں کی خدمت کرنا﴾

محمد بن ہلال اپنی دادی سے راویت کرتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے محصور ہونے کے دنوں میں روزانہ خدمت عالی میں حاضر ہوتی

تھی۔ ایک دن میں حاضر نہ ہو سکی تو امیر المؤمنین نے دریافت فرمایا کسی نے کہا: اس کے شب میں بچہ (ہلال) پیدا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین نے سنتے ہی پچاس درہم اور کپڑے کا ایک ٹکڑا امیرے پاس ارسال فرمایا، اور ساتھ ہی کہلا بھیجا: یہ بچہ کا وظیفہ ہے جو ہر ماہ ملتا رہے گا۔ اور بچہ جب سال بھر کا ہو جائے گا تو وظیفہ دگنا یعنی سو درہم ماہانہ کر دیا جائے گا۔

(حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۵۶ بحوالہ البدلیہ ج ۷ ص ۲۱۴)

### قصہ نمبر ۹۵ ﴿عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت﴾

حضرت علاء بن فضل کی والدہ کہتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں وصیت لکھی ہوئی تھی۔

یہ عثمان کی وصیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا اسی پر مرے گا۔ اور اسی پر انشا اللہ (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا۔

(حیاء الصحابہ ج ۲ ص ۱۶۹ بحوالہ الفصاحی الرازی)

### قصہ نمبر ۹۶ ﴿فراستِ مومن کی نظیر﴾

محاصرین نے ایک دفعہ قبیلہ لیث کے ایک آدمی کو اندر بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کون سے قبیلہ سے ہو؟ وہ بولا میں لیشی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے، وہ بولا کیسے؟ آپ نے فرمایا کیا تم جب چند افراد کے ساتھ آئے تھے تو رسول اکرم ﷺ نے تمہیں دعا نہیں دی تھی کہ تم اس قسم کے دنوں

میں محفوظ رہو گے؟ وہ بولا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لئے تم تباہ و برباد نہیں ہو گے۔ اس پر وہ شخص واپس لوٹ گیا اور جماعت (مخاصرین) کو چھوڑ کر چلا گیا۔

اس کے بعد ان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا جب وہ اندر گیا تو اس نے کہا اے عثمان! میں تمہارا قاتل ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ تم مجھے قتل نہ کرو وہ بولا کیوں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فلاں دن تمہارے لئے استغفار کیا تھا اس لئے تم خون بہانے کے مرتکب نہیں ہو گے۔ اس پر وہ استغفار کرتا ہوا لوٹ گیا اور اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۹۹)

### قصہ نمبر ۹۷ ﴿ حرمتِ حرم اور ایزدائے مسلم کا خیال ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا ”میں نے خالد بن العاص بن ہشام کو مکہ معظمہ کا حاکم بنایا ہے۔ چونکہ اہل مکہ کو ان باتوں کی اطلاع ہوگئی ہے اس لئے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے۔ اس لئے وہ ممکن ہے کہ خانہ خدا اور حرم میں ان سے جنگ کرے گا۔ اس طرح حرم کعبہ کے امن و امان میں اس موسم حج میں خلل واقع ہوگا۔ جبکہ مسلمان دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ اس لئے میری رائے ہے کہ میں حج کے تمام انتظامات تمہارے سپرد کر دوں۔“

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۱۲)

### قصہ نمبر ۹۸ ﴿ منصب کیلئے اہلیت و استعداد پر کھنا ﴾

حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ قریش کے عالی نسب سرداروں میں سے تھے۔ سابقین اولین کے زمرہ مقدسہ میں شامل ہیں۔ محمد بن ابی حذیفہ اس عظیم باپ کا بیٹا تھا۔ ابھی نو عمر ہی تھے کہ سایہ پداری سے محروم ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے منہ

بولا بیٹا بنا کر اس کے کفیل اور مربی ہو گئے۔ جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اسے کسی منصب اور عہدہ کی توقع تھی۔ لیکن یہ نوجوان جیسا کہ رایوں کا بیان ہے کہ دین پر مکمل کار بند نہ تھا۔ ایک روز اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ اسے کسی منصب پر متعین کیا جائے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے تم میں اہلیت نظر آتی تو کہیں حاکم مقرر کر دیتا لیکن تم اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ جس پر یہ ناراض ہو کر چلا گیا۔

(حضرت عثمان خلیفہ مظلوم ص ۱۲۸)

### قصہ نمبر ۹۹ ﴿غایتِ انصاف کا نمونہ﴾

بصرہ، کوفہ اور مصر تینوں مقامات سے معترضین کا ایک ایک وفد روانہ ہوا۔ اور مدینہ کے متصل پہنچ کر سب مل گئے اور شہر کے باہر ٹھہر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ معلوم کریں کہ کس غرض سے یہ وفد آ رہے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر اطلاع دی کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی غلطیاں ظاہر کر کے اصرار کریں کہ خلافت سے دست کش ہو جائیں ورنہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر بنے اور ان لوگوں کو بلایا۔ مہاجرین و انصار کو جمع کیا۔ پھر ان کی ساری شکایتیں سنیں۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں جب تک کسی سے کفر ظاہر نہ ہو یا حد شرعی واجب نہ ہو۔ اس وقت تک اس کو سزا دینا قرین انصاف نہیں۔

(حضرت عثمان خلیفہ مظلوم ص ۱۳۹)

### قصہ نمبر ۱۰۰ ﴿بدو دعا کا اثر﴾

ابو قلابہ سے مروی ہے ”میں نے شام کے بازار میں ایک آدمی کی آواز سنی

جو ”آگ آگ“ چیخ رہا تھا۔ میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیرٹنوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ اور دونوں آنکھوں سے اندھامنہ کے بل زمین پر پڑا گھسٹ رہا ہے اور ”آگ آگ“ چیخ رہا ہے میں نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گھسے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انکی اہلیہ چیخنے لگیں۔ میں نے ان کے طمانچہ مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ عورت پر ناحق ہاتھ اٹھاتا ہے خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں ڈالے۔ مجھے بہت خوف معلوم ہوا اور میں نکل بھاگا۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ صرف آگ کی بدعا باقی رہ گئی ہے۔

(حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مظلوم ص ۲۱۳)

### ﴿شہادت عظمیٰ﴾

کاشانہء خلافت کے پڑوس میں عمرو بن حزم کا مکان تھا۔ اس مکان کی ایک کھڑکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں کھلتی تھی۔ طرفین میں نبرد آزمائی ہو رہی تھی کہ محمد بن ابی بکر اور چند ساتھی اس کھڑکی میں سے چھلانگ لگا کر کاشانہء خلافت میں گھس آئے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت روزہ سے تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ بنت القرافصہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے اسی عالم میں محمد بن ابی بکر نے لپک کر امیر المؤمنین کی داڑھی پکڑ لی اور حد درجہ بدکلامی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھتیجے! داڑھی چھوڑ دے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ ہرگز اس کو پسند نہ کرتا۔ محمد بن ابی بکر بولا: میں تو آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر امیر المؤمنین کی پیشانی میں پیوست کر دیا۔ پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ جس سے

ریش مبارک تر بتر ہو گئی۔ امیر المؤمنین کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بسم اللہ تو کلت علی اللہ۔ اور آپ بائیں کروٹ ہو گئے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ خون پیشانی سے نکل کر داڑھی پر آیا اور نچکنے لگا تو قرآن مجید پر بھی بہنے لگا۔ یہاں تک کہ آیت فسيفكفيكهم الله وهو السميع العليم (تو آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔۔۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۳۷) پر پہنچ کر خون رک گیا اور قرآن بند ہو گیا۔ اسی اثناء میں کنانہ بن بشر بن عتاب نے لوہے کی ایک لاٹ اس زور سے ماری کہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ تیوراکے پہلو کے بل گر پڑے۔ اب سودان بن حمران نے تلوار کا وار کیا اور عمرو بن الحمق نے سینہ پر بیٹھ کر نیزہ سے مسلسل کئی بار حملے کئے تو عالم اچانک تیرہ وتار ہو گیا اور حلم و حیا و صدق و صفا کے چمنستان میں خاک اڑنے لگی یعنی ثالث خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی روح پر فتوح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا لله وانا اليه رجعون .

(حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ص ۲۵۶ بحوالہ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۵۲)

حضرت ابوبکر صدیقؓ  
کے  
سوقِ قصے

مؤلف:  
شیخ محمد صدیق منشاوی

مترجم  
مولانا خالد محمود صاحب

بیٹے العلوم

۲۰ - ناچھڑا روڈ، پرنسپل، انارکلی، لاہور۔ فون: ۳۳۳۳۳۳

حضرت عمر فاروق  
کے  
سوانح

مؤلف:  
شیخ محمد صدیق منشاوی

مترجم  
مولانا خالد محمود صاحب

بیت العلوم

۲۰- نایبہ روڈ، پرانی انارکلی لاہور، فون: ۳۳۱۲۳۳۳



حضرت علی مرتضیٰ  
سوق قصے کے

مؤلف:  
شیخ محمد صدیق منشاوی

مترجم  
مولانا خالد محمود صاحب  
فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور

بیت العلوم

۲۰-۱ ایسے روڈ، پرانی انارکلی، لاہور۔ فون: ۵۱۲۳۳۳-۵